


اردو

الضوز العظيم والخسران المبين

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف فضيلة الشيخ / د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى

www.KitaboSunnat.com



کے نظارے

اردو ترجمہ بقلم:

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابی مدنی

www.KitaboSunnat.com

مترجم سے رابطہ کی لئے:

Mobile: +91-9773026335 • Tel.: +91-22-25355252

E-Mail: inayatullahmadani@yahoo.com



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَطِيعُو اَللّٰهَ
وَأَطِيعُو رَسُولَهُ

جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

مُعْدَثُ الْأَبْرِيْرِي

کتاب و سنت کی دیشی پرچی ہائے ولی، ۱۰۰ مسلمانی ائمہ پاک سے ۱۲ امامت کو

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- **کتاب و سنت ڈاٹ کام** پر دستیاب تمام الیکٹرونک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- **میکسلسِ التحقیق ان شیخ اللہ** کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- **دعوتی مقاصد** کیلئے ان کتب کی ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشر ہن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈ نگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com
🌐 www.KitaboSunnat.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن الشيخ عنایت الله بن حفیظ الله هندي الجنسية معروف لدى منذ دهر طویل
بسالمة المنهج والمعتقد، وقد كان داعية (رسمي) في مكتب الجاليات والدعوة والإرشاد بمدينة عنیزة
بالمملكة العربية السعودية، ثم انتقل للدراسة في الجامعة الإسلامية كلية الحديث الشريف وتخرج
بتقدير ممتاز ولعمرتي بسالمة منهجه أذنت له بترجمة أي كتاب من كتبی يرغب في ترجمته، وقد
ترجم لي إلى الآن خمسة عشر كتاباً، راجعنا منها أربعة عشر كتاباً فوجدناها مترجمة ترجمة
سلیمة على منهج أهل السنة والجماعة.

وأوصي من يرى تزكيتي هذه أن يجعل الشيخ عنایت الله محل الثقة فإنه كذلك، سواء
كان ذلك في الترجمة أو غيرها من الأعمال، لأمانته، وصدقه، وسلامة معتقده، هكذا أحسبه والله
حسبيه ولا أزكي على الله أحداً. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قاله وكتبه الفقير إلى الله تعالى

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

١٤٣١/٥/١١

بسم الله الرحمن الرحيم

من سعيد بن وهف القحطاني إلى الأخ الشیخ عنایت الله بن
حفیظ الله سلمه الله تعالى
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته أما بعد
فارجو إرسال كل كتاب تترجمونه من كتبی
إلى موقع دار الإسلام بعد صراحته، حتى ينشر في هذا
الموقع المبارك، والله أراك أن يجعل ذلك في
حسناتكم وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

أضطرت وصلحت في الدار
١٤٣١/٥/١١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده الصلاة والسلام علی من لا نبي بعده أما بعد

فإن الشيخ عنایت الله بن حفیظ الله هندي الجنسية معروف
لدى منذ دهر طویل بسالمة المنهج والمعتقد، وقد
كان دالیلة [رسمي] في مكتب الجاليات والدعوة والإرشاد
بمدينة عنیزة بالمملكة العربية السعودية، ثم انتقل
للدراسة في الجامعة الإسلامية كلية الحديث الشريف وتخرج
بتقدير ممتاز، ولم يغفر لي سالمة منهجه أذنت له بترجمة
أي كتاب من كتبی يرغب في ترجمته وقد ترجم لي إلى
الآن خمسة عشر كتاباً راجينا منها ترجمة
ترجمة سلیمة على منهج أهل السنة والجماعة.
وأوصي من يرى تزكيتي هذه أن يجعل الشيخ عنایت الله محل الثقة
فإنه كذلك سواء كان ذلك في الترجمة أو غيرها من الأعمال
لأمانته، وصدقه، وسلامة معتقده، هكذا حسيبه والله أراك
حسبيه ولا أزكي على الله أحداً. هكذا حسيبه والله
ومن أراد نسبناه فهو في الأحرى قاله وكتبه
التفیر الى الله تعالیٰ
د. سعيد بن وهف القحطاني
١٤٣١/٥/١١

بسم الله الرحمن الرحيم

من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى الأخ الشیخ عنایت الله
بن حفیظ الله سلمه الله تعالى.

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته أما بعد:

فارجو إرسال كل كتاب تترجمونه من كتبی إلى موقع دار الإسلام
بعد مراجعته، حتى ينشر في هذا الموقع المبارك، والله أراك أن يجعل ذلك في
موازين حسناتکم وجزاکم الله خيراً.

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

أخوك ومحبک في الله

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

١٤٣١/٥/١١

عرض مترجم

جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا:
 ”یقول الله تعالى: أعددت لعبادی الصالحین مala عین رأت، ولا
 أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما أطلعکم الله
 عليه فاقرأوا إن شئتم:“

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لِهِمْ مِنْ قُرْبَةٍ﴾^(۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنھیں کسی آنکھ نہ نہیں دیکھا، کسی کان نے نہ نہیں سنا اور کسی فرد بشر کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہ گزرا، چھوڑوان چیزوں کو جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع کر دی ہے (جن کی اطلاع نہیں دی ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے)، چنانچہ اگرچا ہوتا اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو: (ترجمہ) کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ اور جہنم کے عذاب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) سورۃ اسجدہ: ۷، تجزیع: صحیح بخاری، حدیث (۲۳۲۳) و صحیح مسلم، حدیث (۲۸۲۳)۔

بیشک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔

افسوں ناک بات یہ ہے کہ مبالغہ آمیز حب الہی کے فلسفہ سے متاثر صوفیہ اور ہمارے مکون کی بعض تصوف زدہ جماعتیں جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی لائچ میں اطاعت و بندگی کو کفر یا شبه کفر تصور کرتی ہیں اور اس لائچ میں کئے گئے عمل سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتی ہیں، حالانکہ یہ نظریہ سراسر فاسد تفاسخہ بندگی کے خلاف اور اللہ کی رحمت و نعمت سے بے نیازی و بیزاری کا مظہر ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی لائچ میں نبی کریم ﷺ سے مختلف نیکی اور اطاعت کے کاموں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کو راضی و خوش کریں اور پھر جہنم سے نجات اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں، ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے محمد! دلنی علی عمل إذا عملته دخلت الجنۃ“ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ نے اسے توحید اور کان اسلام کی تعلیم دی... جب وہ جانے لگا تو آپ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا ہے ایک جنٹی کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے!! (۱)۔ اس قسم کی روایتیں کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں۔

زیر نظر کتاب میں مصنف موصوف شیخ سعید بن علی القحطانی حفظہ اللہ نے کتاب و سنت کے حوالوں سے نہایت سلیمانی اور موثر انداز میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ایک موازنہ پیش کیا ہے، یہ کتاب ان شاء اللہ اردو زبان میں اپنی نوعیت کی

(۱) متفق علیہ۔

”لو أن قطرة من الرقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه“ (۱)۔

اگر ز قوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرجائے تو دنیا والوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو جس کا کھانا ہی وہی ہو اس کا کیا حال ہو گا۔

یہ دنیا دار اعمال ہے۔ جزا و مجزا، انجام کار اور فصلہ کا مقام آخرت ہے۔ دنیوی زندگی و رحیقت مستعار زندگی ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کی خاطر دنیا اور دنیا میں جن و انس کی تخلیق فرمائی اور بشارت و انذار کے زریں فریضہ کے لئے انبیاء و رسول بھیجے، انہوں نے اپنے فریضہ کو کما حقہ ادا کیا اور جھٹ قائم کر دی، اب خوش نصیب اور اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو ایمان و عمل صالح کے ذریعہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنالے اور بد نصیب وہ ہے جو حرم مل نصیبی کے سبب اپنے آپ کو نار جہنم کے حوالہ کر دے، ارشاد باری ہے:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أَجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زَحَرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغَرُورُ﴾ (۲)۔

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بد لے پورے پورے دیجے جاؤ گے، تو جسے جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا جائے

(۱) وکیھے: صحیح البخاری، از علامہ البانی، حدیث (۵۲۰)۔

(۲) سورۃ آل عمران: ۱۸۵۔

ایک منفرد کتاب ہوگی۔

رقم کی یہ نویں طالبعلمانہ کاوش ہے جو اللہ کی توفیق سے زیر طبع سے آراستہ ہو رہی ہے، میں سب سے پہلے اپنے اللہ ذوالجلال کاشکریہ ادا کرتا ہوں جس کی توفیق اور مرد سے کتاب کا ترجمہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اس کے بعد اپنے والدین بزرگوار کاشکر ادا کرتا ہوں جن کی اشک تعلیمی و تربیتی کوششوں کی بدولت دین اسلام کی اوفی سی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و عقبی کی بھلائیوں سے نوازے اور اسے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے، اسی طرح اپنی اہلیہ اہل خانہ اسائدہ کرام اور جملہ معاونین کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزئے خیر سے نوازے۔ (آمین)

بعدہ فاضل بھائی جناب فضیلۃ الشیخ عبد الهادی بن عبد الخالق مدینی حفظہ اللہ (داعیہ و مترجم کتب توعیۃ الجالیات بالاحساس) کاشکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے اتنی تمام ترمصروفیات کے باوجود انتہائی شرح صدر کے ساتھ کتاب پر نظر ثانی کی اور صحیح فرمائی، فجز اہل اللہ خیر ا।

اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اردو داں حلقة کو فائدہ پہنچائے نیز اس کے مؤلف، مترجم، صحیح، ناشر اور جملہ معاونین کو اخلاص قول عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ أجمعین.

ابو عبد اللہ/عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنبلی

/شوال بروز جمعرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدَّمَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شَرُورِ أَنفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ
فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ :
”عظیم کامیابی اور کھلے خسارہ“^(۱) کے سلسلہ میں یہ ایک محترر رسالہ ہے،

(۱) عربی میں کتاب کا نام یہی تھا لیکن اردو میں اس کا نام بدل کر ”جنت و جہنم کے نظارے“ رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ عربی نام کا لفظی ترجمہ دیکھ کر قاری کے ذہن میں کتاب کے مضمون کا صحیح تصور نہیں آ سکتا کیونکہ ”عظیم کامیابی اور کھلے خسارہ“ قرآن کریم میں گرچہ جنت کی نعمت اور جہنم

جسے جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سب سے عظیم مقصد ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے پوچھا: تم نماز میں کس چیز کی دعاء کرتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا: میں تشهد (التحیات لله..) پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن اللہ کی فتنہ میں آپ کی طرح نہیں گلگنا پاتا ہوں اور نہ ہی معاذ کی طرح (یعنی میں نہیں جانتا کہ آپ اور معاذ اپنی نمازوں میں کیا دعاء کرتے ہیں، ”دندنة“ کہتے ہیں کہ آدمی کوئی بات کہے جس کی گلگنا ہٹ تو سنائی دے لیکن سمجھ میں نہ آئے) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حولها ندندن“، یعنی ہم بھی اسی کے قریب قریب گلگناتے ہیں (۱)۔

(۱) سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ برداشت جابر رضی اللہ عنہ بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ابو داؤد (۲/۱۵۰) اور صحیح سنن ابن ماجہ (۱/۱۵۰) میں صحیح قرار دیا ہے۔

جو جنت کی نعمتوں، جن سے سرفراز مند عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب، جس سے دوچار ہونے والا کھلے خسارہ اور گھاٹے میں ہوتا ہے، کے درمیان ایک موازنہ ہے، جس میں میں نے سلامتی کی منزل (جنت)، اس کی نعمتوں، اس تک پہنچانے والی راہ کی رغبت دلانے (اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے) اور بتاہی کے گھر (دوزخ)، اس کے عذاب اور اس تک پہنچانے والی راہوں (ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں) سے ڈرانے اور متنبہ کرنے کی غرض سے مختصر اپنی پس مباحثہ ذکر کئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی کامیابی جنت سے سرفرازی اور جہنم سے نجات ہے، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ زُحِّرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغَرُورُ﴾ (۱)۔

== کے عذاب کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہی عربی کتاب کی وجہ تسلیہ بھی ہے، لیکن اردو میں اسے کسی اور عمل خیر یا نیکی کی ترغیب کیلئے بھی سمجھا جاسکتا ہے، نام کا اختلاف تشویش کا باعث نہ بنے اس لئے وضاحت ضروری قرار پائی۔ (مترجم)

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۸۵۔

”إِذَا وَضَعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمِلُهَا الرَّجُالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ
فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدْمُونِي، قَدْمُونِي وَإِنْ كَانَتْ
غَيرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيلَهَا أَينَ تَذَهَّبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ
صُوتُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا إِنْسَانٌ، وَلَوْ سَمِعَهَا إِنْسَانٌ
لصُعُقَ“ (١) (٢)۔

جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں
پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے: مجھے آگے
بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ (جلدی لے چلو)، اور اگر نیک نہیں ہوتا
ہے تو کہتا ہے: ہائے بربادی! اسے کھاں لے جارے ہو، اس کی
آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو
بے ہوش ہو کر گر پڑے (یا مر جائے)۔

- (۱) ”চুণ“ কে মুন্তি যীহুসুস্কি হোলনাকি কে স্বত্বাধিকারী কার্গুজানে، এবং ব্যাপক
”চুণ“ কাল্ফোমট কে লেখ্মী বুলাজানা হে، দিক্ষিণ: খ্রিস্ট বার্ষি, ৩/ ১৮৫-
- (۲) صحیح بخاری، حدیث نمبر: (١٣١٦)، (١٣٨٠) بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔

مطلوب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جنت کا سوال کرنے اور جہنم سے پناہ
ماگنے ہی کی دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جس بشری
کمال، عظیم رغبت اور عقل کی پختگی تک رسائی ہوئی تھی اس کی دلیل ربیعہ
بن کعب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سویا کرتا تھا، میں آپ کے لئے وضو کا پانی اور ضرورت کی دیگر
اشیاء لے کر آیا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ”ما گنو“، میں نے عرض کیا: میں
جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا: اس کے علاوہ اور
کچھ؟ میں نے کہا: ”بس یہی“، تو آپ نے فرمایا:
”فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بَكْثَرَةَ السُّجُودِ۔“

تو اپنے آپ پر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو (۱)۔

نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ اور اپنی امت کو جنت کی رغبت دلاتے تھے
اور انہیں جہنم سے ڈراتے اور متنبہ کرتے تھے، اور اسی لئے آپ نے فرمایا:

(۱) صحیح مسلم، ۳۵۳، حدیث نمبر: (۲۸۹)۔

میں اللہ عزوجل سے دعا گو ہوں کہ وہ اس عمل کو قبولیت سے نوازے اور
میرے لئے نیز جس شخص تک بھی یہ کتاب پہنچ اس کے لئے نفع بخش بنائے،
بیشک اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے اور انہتائی
کریم ہے جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، وہی ہمارے لئے کافی
اور بہترین کارساز ہے۔

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مؤلف

بوقت چاشت، بروز چہارشنبه، ۷/۱۳۱۶ھ۔

پہلا مبحث:

عظمیم کا میاہی اور کھلے خسارہ کا مفہوم:

۱- ”الفوز العظیم“ (عظمیم کا میاہی) کا مفہوم:

الفوز : کے معنی ہر طرح کی پریشانی یا ہلاکت سے نجات اور سلامتی
کے حصول کے ساتھ خیر و بھلائی سے سرفراز ہونے کے ہیں (۱)۔

العظمیم: کہا جاتا ہے: ”عظم الشيء“ اس کی اصل ”کبر عظمہ“
ہے، یعنی اس کی ہڈی بڑی ہو گئی، پھر ہر بڑی چیز کے لئے اس لفظ کا استعمال
کیا جانے لگا، چنانچہ یہ لفظاً استعمال میں اس (کبر عظمہ) کے قائم مقام
ہو گیا خواہ وہ چیز حسی ہو یا عقلی، ظاہری ہو یا معنوی، اللہ عزوجل کا
ارشاد ہے:

(۱) دیکھئے: القاموس المحيط، ص ۲۲۹ و مختار الصحاح، ص ۲۱۵ و مفردات غریب القرآن
للا صفہانی، ص ۲۲۷۔

صورت میں یہ ”کثیر“ (زیادہ) ہی کے معنی میں ہوتا ہے (۱)۔

عظمیم کا میابی کے سلسلہ میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَعْدُ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ

عَدْنٍ وَرَضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ﴾ (۲)۔

ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا

وعدہ فرمایا ہے جن کے یونچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ

ہمیشہ رہیں گے، اور ان صاف ستھرے پا کیزہ محلات کا جوان

ہمیشہ والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے

بڑی چیز ہے، یہی عظمیم کا میابی ہے۔

نیز ارشاد ہے:

(۱) مفردات غریب القرآن لاصفہانی، ص ۵۷۳۔

(۲) سورۃ التوبۃ: ۲۔

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مَعْرُضُونَ﴾ (۱)۔

آپ کہہ دیجئے کہ یہ بڑی عظمیم خبر ہے جس سے تم منہ موڑ رہے ہو۔

نیز ارشاد فرمایا:

﴿عَمَ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ﴾ (۲)۔

یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم پوچھتا چکر رہے ہیں، بہت

بڑی خبر کے بارے میں۔

اور ”عظمیم“ کا لفظ اگر ظاہری چیزوں میں استعمال کیا جائے تو اس کی

اصل یہ ہے کہ اسے متصل اجزاء والی چیزوں میں استعمال کیا جائے (۳)

اور ”کثیر“ کا لفظ منفصل اجزاء والی چیزوں میں استعمال کیا جائے، لیکن کبھی

کبھی منفصل اجزاء والی چیزوں میں بھی لفظ ”عظمیم“ کا استعمال کیا جاتا ہے،

جیسے ”جیش عظیم“ بڑا شکر، ”مال عظیم“ بڑا (زیادہ) مال، ایسی

(۱) سورۃ ص: ۶۸، ۶۷۔

(۲) سورۃ العنكبوت: ۲۱۔

(۳) یعنی متصل اجزاء والی چیزوں میں عظیم کہا جاتا ہے یعنی بڑا، دیکھئے: لمجہ الدوسی ط ۱/ ۶۰۹۔

میں فوز کبیر کے وصف سے متصف کیا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ (۱)۔
بیشک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے ان کے لئے ایسے
بانگات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بہت بڑی
کامیابی ہے۔

اور درج ذیل آیات کریمہ میں اسے فوز مبین (کھلی کامیابی) کے
وصف سے متصف فرمایا ہے، ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّيْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ مِّنْ يَصْرُفُ عَنْهُ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحْمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ (۲)۔

آپ فرماد تھے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو مجھے ایک

(۱) سورۃ البرون: ۱۱۔

(۲) سورۃ الانعام: ۱۵، ۱۶۔

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱)۔

اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشور ہیں گے یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔

اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ فوز عظیم سے سرفراز ہو گیا، ”فوز عظيم“ کی عظمت شان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں سولہ (۱۶) مقامات پر ذکر فرمایا ہے (۲)، اور اس فوز عظیم کو درج ذیل آیت کریمہ

(۱) سورۃ التوبہ: ۱۰۰۔

(۲) دیکھئے: احمد بن حنبل محدث س للفاظ القرآن الکریم، ص ۵۲۷۔

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بد لے پورے پورے دیئے جاؤ گے، تو جسے جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔

نیز اللہ عزوجل نے بعض جنتیوں کی گفتگو کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَفَمَا نحن بِمِيَتِينَ إِلَّا مُوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذِبِينَ إِنْ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمُشَكِّلِ هَذَا فَلِيَعْمَلُ الْعَالَمُونَ﴾ (۱)۔

کیا (یہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟۔ بجز پہلی ایک موت کے اور نہ ہم عذاب دیئے جانے والے ہیں۔ بیشک یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔

نیز اللہ کا ارشاد ہے:

(۱) سورۃ الصافات: ۵۸، ۶۱۔

بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا حرم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿فَإِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخَلُهُمْ رَبِّهِمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ (۱)۔
لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔

چنانچہ بڑی عظمی اور صریح کامیابی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تَوْفُونَ أَجْوَرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زَحَرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغَرُورُ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ الجاثیہ: ۳۰۔

(۲) سورۃ آل عمران: ۱۸۵۔

کا فضل ہے، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔
نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچے لوگوں کے بارے میں جن میں عیسیٰ علیہ
السلام بھی ہیں، فرمایا:

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱)۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ عظیم کامیابی ہے۔
ان کے علاوہ بے شمار آیات ہیں (۲)۔

نیز اللہ عز و جل نے اس عظیم کامیابی کی راہ اور اس تک پہنچانے والے

(۱) سورۃ المائدۃ: ۱۱۹۔

(۲) دیکھئے: سورۃ التوبہ: ۱۰۰، ۱۱۹، ۱۱۸، و ۱۱۷، سورۃ الحدید: ۱۲، سورۃ الصافیہ: ۹۔

﴿إِنَّ الْمُتَقِيِّينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَعَيْوَنٍ، يَلْبِسُونَ مِنْ سَنَدَسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، كَذَلِكَ وَزَوْجَنَاهُمْ بِحُورِ عَيْنٍ، يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينٍ، لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ، فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱)۔

بیک اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے امن و سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں۔ باریک اور دیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ انتہائی بے فکری کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت (جو وہ مر چکے)، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالیا۔ یہ صرف تیرے رب

(۱) سورۃ الدخان: ۵۷۔

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

﴿وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَقَبَّلُهُ كَمَا يَأْتِي إِلَيْهِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (۱)۔

اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقویٰ اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

۲- ”الخسران المبين“ (صریح خسارہ) کا مفہوم:
خسیر: خسراً، و خسراً، و خسراً، و خسراً، و خسراً، و خسراً، و خسارة، و خساراً: کے معنی گمراہ ہونے کے ہیں، اور اس سے دوچار ہونے والے شخص کو ”خاسر“ اور ”خسیر“ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے:

(۱) سورۃ النور: ۵۲۔

عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يَصْلَحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَطِعَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فِيْ عَظِيمًا﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور راست گوئی سے کام لوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا وہ بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿تَلَكَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ الاحزاب: ۷۰، ۷۱۔

(۲) سورۃ النساء: ۱۳۔

نیز اللہ عزوجل نے ظالموں کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَضْلِلُ اللَّهُ فِيمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرْدَ مِنْ
سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاطِئِينَ مِنَ الذُّلَّ
يَنْظَرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (۱)۔

اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں،
اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے
کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ
(جہنم کے) سامنے لاکھڑے کئے جائیں گے، مارے ذلت کے
بھکے جا رہے ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے
ایمان والے صاف کہہ رہے ہوں گے کہ حقیقی زیان کاروہ ہیں

(۱) سورۃ الشوریٰ: ۳۲، ۳۵۔

”خسر التاجر“، یعنی تاجر اپنی تجارت میں دیوالیہ کا شکار ہوا اور اس کا مال
کم ہو گیا، نیز کہا جاتا ہے: ”خسر فلاں“، یعنی فلاں شخص ہلاک اور گمراہ
ہو گیا، اور اس کا استعمال خارجی ضرورتوں (چیزوں) میں ہوتا ہے، جیسے
مال اور عزت و جاہ، اور زیادہ یہی استعمال ہے، نیز نفسی چیزوں میں بھی ہوتا
ہے، جیسے صحت، سلامتی، عقل، ایمان اور ثواب وغیرہ، اور یہی وہ چیز ہے جسے
اللہ عزوجل نے صرٹح خسارہ قرار دیا ہے (۱)، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسَرَانُ الْمُبِينُ﴾ (۲)۔

کہہ دیجئے! کہ حقیقی زیان کاروہ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے اہل کو
مقامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے، یاد رکھو! ہلم کھلا خسارہ
یہی ہے۔

(۱) دیکھئے: القاموس الْجَيْط، ص ۲۹۱ و المُعجم الْوَسِيْط، ۱/ ۲۳۳ و مفردات غریب القرآن للاصفہانی،
ص ۲۸۲ و مختار الصحاح، ص ۲۷۔

(۲) سورۃ الزمر: ۱۵۔

کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرے گا اس کے لئے یقیناً دوزخ کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوانی ہے۔
نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسَرَ﴾
خسرانًا مبيناً (۱)۔
اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی (دوست) بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔
مزید ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ جُبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۲)۔

اور جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ضائع اور اکارت ہے، اور

جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا، یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس صریح خسارہ تک پہنچانے والے عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّعَدَ حَدَّوْدَهِ يَدْخُلُهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَّهِينٌ﴾ (۱)۔
اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدود سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔
نیز فرمایا:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارًا
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخَزِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ النساء: ۱۹۔

(۲) سورۃ التوبہ: ۲۳۔

آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اللہ عزوجل نے اپنی کتاب عزیز میں (۱) بہت ساری جگہوں پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر قسم کے خسارہ کا سبب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہی ہے۔

فوز عظيم کے مقام بلند، متقيوں -الله ہمیں بھی ان میں سے بنائے - کے گھر، سلامتی کی منزل، نعمتوں بھرے باغات میں داخلہ کے ذریعہ جسے اللہ اس مقام کی توفیق عطا کر دے، نیز اس عظیم کامیابی سے محروم شخص کا خسارہ اور ہلاکت کے گھر جہنم - اور وہ کیا ہی بری جائے قرار ہے اور متنکروں کا کیا ہی براٹھ کانہ ہے، ہم اس سے قریب کرنے والے ہر عمل سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں - میں داخلہ کا خسارہ (وغیرہ) کی اسی عظیم اہمیت کے پیش نظر - ان شاء اللہ - آئندہ مباحث عظیم کامیابی سے سرفراز مندوں کی نعمتوں اور صریح خسارہ سے دوچار لوگوں کے عذاب کے سلسلہ میں ہوں گے۔

(۱) دیکھئے: لمجھ لمفھر س لالقا ظالقرآن الکریم، ج ۳، ۲۳۲ تا ۲۳۴۔

دوسرا بحث:

جنت کی بشارت اور جہنم کی وارنگ:

۱- جنت کی ترغیب:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجْهَةٌ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَقِينَ، الَّذِينَ يَنْفَعُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصْرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

نیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مرغوب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا:

﴿قُلْ أَنْبِئْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مَطْهَرَةٌ وَرَضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقُنَا عَذَابَ النَّارِ، الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفَقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (۱)۔

آپ کہہ دیجئے! کیا میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پا کیزہ یویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرمائیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۵-۱۷۔

ونعم أجر العاملين ﴿۱﴾ (۱)۔

اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پر ہیز گاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشاکستہ کام ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں، فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑنہیں جاتے۔ انہیں کا بدله ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۳۳-۱۳۶۔

چھوڑوان چیزوں کو جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع کر دی ہے (جن کی اطلاع نہیں دی ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے)، چنانچہ اگر چاہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھلو: (ترجمہ) کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے۔
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

”موقع سوطٍ في الجنة خير من الدنيا وما فيها“ (۱)۔
جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:
”غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا و ما فيها، ولقب قوس أحدكم أو موقع قدمٍ من الجنة خير من

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۳۲۵۰) و صحیح بخاری مع فتح الباری / ۶ تا ۱۵، حدیث (۲۷۹۳)،
(۲) صحیح مسلم، حدیث (۱۸۸۰)۔

والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”يقول الله تعالى: أعددت لعبادِي الصالحين مala عين رأى، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلبِ بشر ذخراً به ما أطلعكم الله عليه فاقرأوا إن شئتم: ﴿فَلَا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين﴾ (۱)“ (۲)۔

الله تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے تیک بندوں کے لئے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنھیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کا نے نہیں سنا اور کسی فرد بشر کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہ گزرا،

(۱) سورۃ السجدة: ۷۔

(۲) صحیح بخاری، حدیث (۲۳۲۳) و صحیح مسلم، حدیث (۲۸۲۳)۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَرَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمِرُونَ﴾ (۱)۔
 اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنھیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں۔
 مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام کرو، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، اپنے گھروں کو بھلائی کا حکم دو اور انہیں برائی سے منع کرو، انہیں علم و ادب سکھاؤ، بھلائی کے کام میں ان کی مدد اور ان کا تعاون کرو اور انہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرو (۲)۔
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) سورۃ الْآتِیٰم: ۶۔

(۲) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، ۳۹۲/۲، تفسیر البغوي، ۷/۳۴۔

الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، وملائك ما بينهما ريحًا، ولنصيفها على رأسها - يعني خمارها - خير من الدنيا وما فيها» (۱)۔
 اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) ایک بار صحیح یا شام میں نکلا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، اور جنت میں تم میں سے کسی کے قوس (کمان) یا قدم رکھنے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، اور اگر جنتیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا والوں کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو زمین و آسمان کی پہنائیاں روشن ہو جائیں گی اور خوبیوں سے معطر ہو جائیں گی، اور اس کے سر کا دو پٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔
۲- جہنم کی وارنگ:

اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۲۵۸۶) و حدیث (۲۲۶۹)۔

کوڑا یئے، نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے قریش کو دعوت دی، سب اکٹھا ہو گئے، پھر آپ ﷺ نے عمومی اور خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرمایا:

”يَا بْنَى كَعْبَ ابْنَ لُؤِيٍّ أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ...“
وَذَكْرٌ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَادَى قَرِيشًا بِطَنَّا بَطَنًا إِلَى أَنْ
قَالَ: ”...يَا فَاطِمَة! أَنْقَذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا
أُمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحْمًا سَأْبِلُهَا
بِبَلَالِهَا“ (۱) ...“ (۲)۔

اے بنی کعب ابن لوی! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ... اور

(۱) ”سَأَبْلِجَهَا بِالْحَالَةِ“ کے معنی ہیں کہ میں رشتہ جوڑے رکھوں گا، رشتہ کاٹنے کو گرمی سے اور اسے جوڑنے کو گرمی کو سردی کے ذریعہ ختم کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی سے ”بُلَار حَامِكُمْ“ یعنی ہے یعنی اپنے رشتہ جوڑے رکھو۔ صحیح مسلم بشرح نووی، ۳/۸۰۔

(۲) صحیح مسلم (انہی الفاظ کے ساتھ) / ۱، ۱۹۲، حدیث (۲۰۲)۔ صحیح بخاری (اسی کے ہم معنی) حدیث (۲۷۵۳، ۲۷۵۲، ۳۵۲۷، ۳۷۸۱)۔

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَتْ لِلْكَافِرِ﴾ (۱)۔

اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

نیز ارشاد باری ہے:
﴿فَأَنذِرْتُكُمْ نَارًا تَلْظِي لَا يُصْلَحُهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلََّ﴾ (۲)۔

میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ جس میں صرف وہی بدجنت داخل ہوگا۔ جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ پھیر لیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (۳) ”اپنے قریبی رشتہ داروں

(۱) سورۃ البقرۃ: ۲۳۔

(۲) سورۃ اللیل: ۱۳۔

(۳) سورۃ الشرائع: ۲۱۳۔

آپ بلا منڈیر والے کنوے کے کنارے آکر کھڑے ہوئے اور انہیں (سردار ان قریش کو) ان کے نام مع ولدیت (باپ کے نام کے ساتھ) پکارنے لگے:

”یا فلاں ابن فلاں، ویا فلاں ابن فلاں، ایسرا کم انکم
اطعتم اللہ ورسولہ؟ فانا وجدنَا ما وعدنا ربنا حقاً،
فهل وجدتُم ما وعدكم ربكم حقاً۔“

اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے خوشی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا ہم نے اسے حق اور حق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا تم نے بھی حق پایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا آپ بے روح جسموں (لاشوں) سے گفتگو فرمائے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”والذی نفس محمد بیده ما انت بأسمع لما أقول“

حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے یکے بعد دیگرے قریش کے ایک ایک قبیلہ کو مخاطب کیا یہاں تک کہ فرمایا: اے بیٹی فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں اللہ کی جانب سے تمہارے لئے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ تم سے قرابت (نسبی رشتہ) ہے جسے میں جوڑے رکھوں گا۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ بدر کے دن قریش کے چوبیں بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں حکم فرمایا جنہیں بدر کے منڈیر والے کنوں میں سے کسی کنویں میں بڑی بڑی طرح پھینک دیا گیا، اور جب آپ کسی قوم پر غالب (فتح یاب) ہوتے تو میدان جنگ میں تین شب اقامت فرماتے، چنانچہ جب بدر کا تیسرا دن ہوا تو آپ کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا اور آپ چل پڑے، آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی روانہ ہو گئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ: ہمارا خیال تھا کہ آپ اپنی کسی ضرورت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ

فذلكم مثلني ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تفحمنون فيها،^(۱) ميري مثل اس شخص جيسي ہے جو آگ جلانے، اور جب اس کے ارد گر دروشنی پھیل جائے تو یہ پتنگے اور پروانے اس آگ میں کو دنے لگیں، اور وہ شخص ان کی کمر پکڑ کر روکے اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں زبردستی کو دیں، آپ ﷺ فرماتے ہیں: چنانچہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے تمہیں روک رہا ہوں، کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو، لیکن تم ہو کہ مجھ پر غالب آ کر زبردستی اس میں کو دے جارہے ہو۔

(۱) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۸۹، حدیث (۲۸۸۳)۔

منهم“۔ اللہ کی قسم جس کے پاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے تم میری بات کوان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، یہاں تک کہ زجر و توبخ، ذلت و رسائی اور حسرت و ندامت کی خاطر آپ ﷺ کی بات انہیں سنائی^(۱)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مثلي كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ماحولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتفحمن فيها^(۲)“، قال:

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۲۳۹۷۶) و صحیح مسلم، حدیث (۲۸۷۵)۔

(۲) ”أَنْجَمْ“ کے معنی دشوار معاملات میں بلا سوچ بوجھلوٹ پڑنے کے ہیں، اور ”أَنْجَزْ“ جزء کی جمع ہے، کرمیں تہبند اور ازار وغیرہ باندھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم بشرح نوی ۱۵/۵۵۔

درخت ہوں (۱)۔

اور ”جنت“ درختوں اور کھجوروں پر مشتمل باغ کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع ”جنات“ آتی ہے، نیز جنت اس باغچے کو بھی کہا جاتا ہے جس کے درختوں سے زمین چھپ گئی ہو (۲)، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسِيَا فِي مُسْكَنِهِمْ آيَةً جِنْتَانَ عَنْ يَمِينِ وَشَمَالِ﴾ (۳)۔

یقیناً قوم سبا کے لئے ان کی رہائش گاہوں میں نشانی تھی، دائیں اور باکیں سے دو باغ تھے۔

اور ”حدیقه“، جس کی جمع ”حدائق“ آتی ہے درختوں اور کھجوروں پر مشتمل باغ کو کہا جاتا ہے، اور یہی ”بستان“ یعنی چھوٹا باغ ہے، اور

(۱) دیکھئے: حادی الارواح لابن القیم، ص ۱۱۱۔

(۲) دیکھئے: لسان العرب، ۹۹/۱۳، و مفردات القرآن للاصفہانی، ص ۲۰۲ وال المصباح الامیر ۱/۱۱۲۔

(۳) سورۃ سباء: ۱۵۔

تیسرا مبحث:

جنت و جہنم کے نام:

۱- جنت کے نام:

(الف) جنت:

یہ اس منزل (رہائش گاہ) اور لذت و سرخروئی، مسرت، آنکھ کی ٹھنڈک اور اس کی ہمہ جہت نعمتوں کا عام نام ہے، اس لفظ ”جنت“ کا اصل مأخذ ”ستر و تغطیہ“ یعنی چھپانا اور ڈھانپنا ہے، چنانچہ اسی لفظ سے شکم مادر میں رہنے والے بچے کو ”جنین“ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کے شکم میں چھپا ہوتا ہے، اور اسی سے ”بستان“ یعنی باغچے کو بھی ”جنت“ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر درختوں اور برگ و بارکو چھپائے ہوتا ہے، اس نام کا استعمال اسی جگہ کے لئے مناسب ہے جہاں مختلف قسم کے بہت سارے

ان کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کی منزل ہے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ (۱)۔

اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے۔
چنانچہ جنت ہر طرح کی آفت و مصیبت سے سلامتی کا گھر ہے (۲)۔
(ج) دارالخلد (ہیشگی کا گھر):

اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت سے کبھی کوچ نہ کرنا ہو گا، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُوذٌ﴾ (۳)۔

یہ بے انتہاء بخشش ہے۔ یعنی نہ ختم ہونے والی عطاۓ۔

نیز ارشاد ہے:

(۱) سورۃ یوںس: ۲۵۔

(۲) حادی الارواح: ص ۱۳۳۔

(۳) سورۃ حود: ۱۰۸۔

”حدائق“ کو حدائقہ شکل اور بناؤٹ میں ”حدقة العین“، یعنی آنکھ کی سیاہی اور اس میں پانی کے وجود سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا جاتا ہے (۱)، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ (۲)۔

یقیناً متقیوں کے لئے کامیابی ہے۔ باغات ہیں اور انگور ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ”جنت“ کا لفظ (واحد) چھیسا سُجھ مرتبہ اور ”جنتات“ کا لفظ (جمع) انہر مرتبہ ذکر فرمایا ہے (۳)۔

(ب) دارالسلام (سلامتی کی منزل):

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (۴)۔

(۱) دیکھئے: مفردات غریب القرآن للاصفہانی ص ۲۲۳، والقاموس المجھیط ص ۱۱۲۷، تفسیر ابن کثیر ۳۶۶/۲، ۳۶۶/۳۔

(۲) سورۃ الدیٰ: ۳۲، ۳۱۔

(۳) دیکھئے: الجم لمعھر س لالفاڑ القرآن الکریم ص ۸۲ تا ۸۰۔

(۴) سورۃ الانعام: ۱۲۷۔

جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی تکان۔

(ھ) جنة المأوى:

ارشاد باری ہے:

﴿عندھا جنة المأوى﴾ (۱)۔

اسی کے پاس جنة المأوى ہے۔

(و) جنات عدن (ہمیشہ رہنے والے باغات):

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب﴾ (۲)۔

یعنی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے
بندوں سے کیا ہے۔

(ز) فردوس:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

(۱) سورۃ الجم: ۱۵۔

(۲) سورۃ مریم: ۶۱۔

﴿ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود﴾ (۱)۔

اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنْ هَذَا لِرَزْقُنَا مَالٌ مِنْ نَفَاد﴾ (۲)۔

بلاشبہ یہ ہماری دی ہوئی روزی (عطیہ) ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی
نہیں۔

(د) دار المقامۃ (دائیٰ اقامۃ کی منزل):

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿الذی أَحْلَنَا دار المقامۃ من فضله لا يمسنا فيها

نصب ولا يمسنا فيها لغوب﴾ (۳)۔

جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتا را

(۱) سورۃ ق: ۳۳۔

(۲) سورۃ م: ۵۳۔

(۳) سورۃ فاطر: ۳۵۔

ان کے لئے نعمتوں بھرے باغات ہیں۔

(ط) المقام الامین (امن و سکون کی جگہ):

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَارْشَادٌ هُوَ:

﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ (۱)۔

بیشک مقنی حضرات امن و سکون کی جگہ میں ہوں گے۔

المقام: جائے اقامت کو کہتے ہیں۔

الامین: ہر طرح کی برائی، آفت اور ناپسندیدہ امر سے مامون چیز کو کہتے

ہیں، یعنی وہ امن و سلامتی کی تمام خوبیوں کی جامع ہوگی (۲)۔

(ی) مقدم صدق (راستی اور عزت کی منزل):

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَارْشَادٌ هُوَ:

﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْدُودٍ صَدْقٍ عِنْدَ

مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (۳)۔

(۱) سورۃ الدخان: ۵۱۔

(۲) حادی الارواح لابن القیم، ج ۱۱، ص ۱۱۶۔

(۳) سورۃ القمر: ۵۲، ۵۵۔

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۱)۔

یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ جو فردوس کا وارث ہوں گے
جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

فردوس: اس باغیچہ کو کہتے ہیں جس میں باغوں میں پائی جانے والی تمام
چیزیں موجود ہوں (۲)۔

(ح) جنات النعیم (نعمتوں بھرے باغات):
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ
النَّعِيمِ﴾ (۳)۔

بے شک مقنی حضرات بیشک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے

(۱) سورۃ المؤمنون: ۱۰، ۱۱۔

(۲) فتح الباری، ۶/۱۳، والقاموس الجھیلیص ص ۲۵۷۔

(۳) سورۃلقمان: ۸۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنم کو ”النار“ (معرفہ) کے لفظ سے ایک سو چھپیں مرتبہ اور ”نارا“ (نکره) کے لفظ سے انیس مرتبہ ذکر فرمایا ہے (۱)۔

(ب) جہنم:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَ مِرْصَادًا لِّلظَّاغِينَ مَا بِأَيِّ﴾ (۲)۔

بیشک جہنم گھات میں ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔

(ج) جحیم:

ارشاد باری ہے:

﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يُرِي﴾ (۳)۔

دیکھنے والے کے لئے جہنم ظاہر کی جائے گی۔

(۱) دیکھئے: اجموج لمحہ لمحہ س لالغاظ القرآن الکریم، ص ۲۳ تا ۲۵۔

(۲) سورۃ الدبای: ۲۴:۲۱۔

(۳) سورۃ النازعات: ۳۶:۔

بیشک مقیٰ حضرات جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مقعد صدق اس لئے کہا ہے کہ جنت میں اچھی رہائش کی تمام چاہیں فراہم ہوں گی، جیسا کہ مکمل پائیدار محبت کو ”مودة صادقة“، پچھی محبت کہا جاتا ہے (۱)۔

۲- جہنم کے نام:

(الف) النار (آگ):

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۲)۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

(۱) حادی الارواح لابن القیم، ص ۷۷۔

(۲) سورۃ البقرۃ: ۳۹:۔

ہرگز نہیں! یہ ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔

(ز) الحاویۃ:

ارشاد باری ہے:

﴿وَأَمَّا مِنْ خُفْتُ مَوَازِينَهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةُ، وَمَا أَدْرَاكُ
مَاهِيَّةُ نَارِ حَامِيَّةٍ﴾ (۱)۔

اور جس کے پلٹے ہلکے ہوں گے۔ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ آپ
کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے۔

(ح) دارالبوار (ہلاکت کا گھر):

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفَّرًا وَأَحْلَلُوا
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارَ جَهَنَّمْ يَصْلُوْنَهَا وَبَئْسَ الْقَرَارُ﴾ (۲)۔
کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت

(۱) سورۃ القاریعہ: ۲۸۔

(۲) سورۃ ابراہیم: ۲۸، ۲۹۔

(د) سعیر (بھڑکتی آگ):
ارشاد باری ہے:

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (۱)۔

ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔
(ھ) سقر:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَرٌ لَا تَبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾ (۲)۔

آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے۔ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔

(و) الحطمة (توڑ پھوڑ دینے والی):

ارشاد باری ہے:

﴿كَلَّا لِيَنْبَذِنَ فِي الْحَطْمَةِ﴾ (۳)۔

(۱) سورۃ الشوریٰ: ۷۔

(۲) سورۃ المدثر: ۲۷، ۲۸۔

(۳) سورۃ الحمز: ۵۔

چو تھا مبحث:

جنت و جہنم کی جگہ (جائے وقوع):

۱- جنت کا جائے وقوع:

ارشاد باری ہے:

﴿كَلَا إِنْ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لِفِي عَلَيْنِ وَمَا أُدْرَاكَ مَا عَلَيْوْنَ﴾ (۱)۔

یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے۔

علیون: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”علیون، جنت ہے، اور کہا گیا ہے کہ علیون ساتویں آسمان پر عرش تلے ایک جگہ کا نام ہے“ (۲)۔

(۱) سورۃ المؤمنون: ۱۰، ۱۱۔

(۲) دیکھیے: تفسیر البغوي، ۳۶۰/۳، تفسیر ابن کثیر، ۵۸۷/۲۔

کے بد لے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لاڑالا۔ یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”...رہدار ابوار (ہلاکت کا گھر) تو وہ جہنم ہے،“ (۱)۔
امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے (۲)۔

”بَارِشٌ“، اور جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس سے مراد ”جنت“ ہے، (۱)۔
 صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جنت ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے
 ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”...إِنَّمَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ إِنَّهُ أَوْسَطُ
 الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ
 تَفْجِيرُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ“ (۲)۔

جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانی حصہ
 ہے اور جنت کا سب سے اوپر حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمٰن کا
 عرش ہے، نیز جنت کی نہریں اسی سے پھوٹتی ہیں۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ“ علیین ”علو
 (بلندی) سے ماخوذ ہے، اور جو چیز جتنی ہی عالی اور بلند ہوتی ہے اتنی ہی
 عظیم اور وسیع تر ہوتی ہے، اسی لئے اللہ عزوجل نے علیین کی شان و عظمت
 بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا عَلَيْهِنَ﴾ (۱)۔

اور آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟۔

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (۲)۔

اور تمہاری روزی اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب آسمان
 میں ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرمان باری: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا
 تُوعَدُونَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”آسمان کی روزی سے مراد

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۳۶۔

(۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۸۷۔

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۳۶۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۱۱، حدیث (۲۴۹۰) و ۲/۱۳، حدیث (۲۲۲۳) و ۲/۲۷، حدیث (۲۷۷) نیز کیھے صحیح
 مسلم بشرح نووی ۲/۵۷۹۔

کے نیچے ہے، یعنی جس طرح جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے اسی طرح
سجین ساتویں زمین کے نیچے ہے (۱)۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحیح یہ ہے کہ ”سجین“، جن سے
ماخوذ ہے جس کے معنی تنگی کے ہیں، کیونکہ مخلوقات جتنا نیچے ہوں گی تنگ
ہوتی جائیں گی، اور جتنا بلند (اوپر) ہوں گی کشادہ ہوتی جائیں گی، اس
لئے کہ ساتوں افلاک میں سے ہر ایک اپنے نیچے والے کے بال مقابل کشادہ
اور بلند ہوتا ہے، اسی طرح ساتوں زمینوں میں سے ہر ایک اپنے سے نیچے
والی زمین کے بال مقابل کشادہ ہوتی ہے (اسی طرح بتدریج) یہاں تک کہ
سب سے آخری سطح اور تنگ ترین جگہ ساتویں زمین کے وسط میں مرکز تک
پہنچ جاتی ہے (۲)۔

پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ: بدکاروں کا ٹھکانہ جہنم

(۱) دیکھئے: تفسیر البغوي، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۵۹، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، و التحريف من النار لابن

رجب ص ۶۲، ۶۳۔

(۲) تفسیر ابن کثیر/۲/۳۳۶۔

۲- جہنم کا جائے وقوع:
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك
ما سجين كتاب مرقوم﴾ (۱)۔

یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اور کیا معلوم کہ سجین کیا
ہے۔ یہ تو کلھی ہوئی کتاب ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ ”سجین“ میں ہے، ”سجین“، جن سے
”فعیل“ کے وزن پر ہے، جس کے معنی تنگی کے ہیں جیسا کہ فتن، شریب،
خیر اور سکیر وغیرہ کہا جاتا ہے، اسی لئے اس کا معاملہ بڑا عظیم ہے، اللہ
عزوجل نے فرمایا: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَاسِجِين﴾ آپ کو کیا معلوم کہ سجین
کیا ہے، یعنی وہ بڑا عظیم معاملہ، دائی قید و بند اور دردناک عذاب ہے (۲)۔

امام بغوی، امام ابن کثیر اور ابن رجب حنبلي رحمہم اللہ نے کچھ آثار ذکر
کئے ہیں جن سے اس بات کیوضاحت ہوتی ہے کہ ”سجین“ ساتویں زمین

(۱) سورۃ لمطفیین: ۷۶ تا ۹۶۔

(۲) تفسیر ابن کثیر/۲/۳۸۵، تفسیر البغوي/۲/۳۵۸۔

ثبوراً ﴿۱﴾۔

اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکلیں کس کر پھینک دیئے جائیں گے تو وہاں اپنے لئے موت ہی موت پکاریں گے۔

فرمان باری: ﴿کتاب مرقوم﴾ (لکھی ہوئی کتاب ہے) ﴿و ما أدرأك ماسجين﴾ (آپ کو کیا معلوم کہ سجين کیا ہے؟) کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ ان (بدکاروں) کے سجين میں تحریر کردہ انجام اور ٹھکانہ کی تفسیر ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز لکھ کر اسے فراغت ہو جکی ہے نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کمی کی جاسکتی ہے (۲)۔

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بعض لوگوں نے اس پر (یعنی جہنم ساقویں زمین کی پخلیت میں ہے) اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے خبر دی ہے کہ کفار صحح و شام (عالم برزخ میں) جہنم پر پیش کئے جاتے ہیں، نیز اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ ان کے لئے آسمان کے

(۱) سورۃ الفرقان: ۱۳۔

(۲) تفسیر ابن کثیر / ۸۸۲ - ۷۸۲۔

ہے جو کہ سب سے نچلا حصہ (آخری سطح) ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (۱)۔

پھر ہم نے اسے نیچوں سے بیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جو بھی ختم نہ ہو گا۔ اور یہاں فرمایا:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لِفِي سَجِينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٍ كِتَابَ مَرْقُومٍ﴾۔

یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجين میں ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ سجين کیا ہے۔ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔

یہ تنگی اور نچلے پن دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿وَإِذَا أَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضِيقًا مَقْرَنِينَ دُعُوا هَنالِكَ﴾

(۱) سورۃ آتین، ۵، ۶۔

بیہاں تک کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جائے گا، اور آسمان کا دروازہ کھولوایا جائے گا تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُلْجِيَ الْجَمْلَ فِي سَمَاءِ الْخِيَاطِ﴾۔

ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے بیہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلا جائے۔

پھر اللہ عزوجل فرمائے گا: اس کا نامہ اعمال سب سے چلی زمین میں سجن میں لکھ دو، پھر آپ نے فرمایا: چنانچہ اس کی روح کو یونہی پھینک دیا جائے گا، حدیث طویل ہے۔

دروازے کھولے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم زمین میں ہے... اور روح قبض کرنے کی کیفیت کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ سے مردی براء بن عاذب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کافر کی روح کے بارے میں فرمایا:

”حتیٰ ینتهی بہ إلی السماوی الدنیا، فیستفتح له، فلا یفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُلْجِيَ الْجَمْلَ فِي سَمَاءِ الْخِيَاطِ﴾ (۱)، فیقول الله عزوجل: اکتبوا کتابہ فی سجين فی الأرض السفلی“ ثم قال: ”...فتطرح روحه طرحًا...“ الحدیث (۲) بطولہ (۳)۔

(۱) سورۃ الاعراف: ۳۰۔

(۲) لِتَحْوِیفِ مِنَ النَّارِ وَالنَّعِيْفِ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ، ص ۶۳۔

(۳) مند احمد، ۲۸۷ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ابو داود، حدیث (۲۳۵۳)، والنسائی، ۱۰۱، والحاکم ۱/۳۷۳ تا ۳۰ وغیرہم، امام البانی رحمہ اللہ نے احکام الجائز (ص ۱۵۸) میں اس حدیث کی سندیں جمع کی ہیں اور اس کی تخریج و تصحیح میں شرح و بسط سے کام لیا ہے۔

تک پہنچ، تو سے کچھ رنگوں نے ڈھانپ لیا جسے میں نہیں جانتا کہ
وہ کیا تھے، فرماتے ہیں کہ: پھر میں جنت میں داخل ہوا، جس میں
موتی کے گندومنارے تھے، اور اس کی مٹی مشک تھی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد
فرمایا:

”لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة
فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها... ثم قال:
اذهب إلى النار فانظر إليها و إلى ما أعددت لأهلها
فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً...“ (۱)
الحديث.

جب اللہ نے جنت و جہنم کی تخلیق فرمائی تو جبریل علیہ السلام کو جنت

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۱۲۹) و نسائی، اسے علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی
(۲) صحیح سنن نسائی (۲/۷۹، ۳۵۲۳) میں حسن قرار دیا ہے۔

پانچواں بحث:

موجودہ وقت میں جنت و جہنم کا وجود:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ (واقعہ معراج کے بارے میں) نبی کریم
ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة
المنتهى فغشيهما ألوان لا أدرى ما هي؟ قال: ثم دخلت
الجنة فإذا فيها جنـابـدـ الـلـؤـلـوـ (۱) وإذا ترابها
المسك“ (۲)۔

پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ سدرة المنتھی

(۱) ”جنـابـدـ“ جنبدہ کی جمع ہے اس کے معنی قبے کے ہیں، صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں بھی اسی
طرح وارد ہوا ہے، اس حدیث میں اہل سنت و جماعت کے اس عقیدہ کی دلیل ہے کہ جنت و جہنم کی
تخلیق ہو چکی ہے، نیز کہ جنت آسمان میں ہے، واللہ اعلم، دیکھئے صحیح مسلم بشرح نووی ۵۷۹/۲۔

(۲) صحیح بخاری، حدیث (۳۸۹) و صحیح مسلم حدیث (۱۲۳)۔

منزل) صبح و شام پیش کی جاتی ہے، اگر جنتیوں میں سے ہوتا ہے تو اہل جنت کی ایک منزل پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمیوں میں سے ہوتا ہے تو جہنمیوں کی ایک منزل دکھائی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه“ (۱)۔

بیشک مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں

(۱) سنن نسائی، حدیث (۲۰۷۳) و سنن ابن ماجہ، حدیث (۳۲۷۱) و مسن احمد، حدیث (۳۲۷۱)، مسن احمد، حدیث (۳۵۵/۳)، علامہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن نسائی (۲۳۲۵) اور صحیح سنن ابن ماجہ (۳۲۳/۲) اور سلسلة الاحادیث الحسیج (۳۰/۲)، حدیث (۹۹۵) میں صحیح قرار دیا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۳۰۲/۲) میں مسن احمد کی سند ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”یہ بڑی عظیم سند ہے اور انہی کی پاسیدار متن ہے۔“

کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ جنت اور میں نے اس میں جنتیوں کے لئے جو کچھ تیار کر رکھا ہے انہیں دیکھو، وہ آئے اور جنت اور اس میں جنتیوں کے لئے تیار کردہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، پھر (اللہ نے) فرمایا: جاؤ جہنم اور جہنم میں جہنمیوں کے لئے میں نے جو کچھ (عذاب) تیار کر رکھا ہے اسے دیکھو، انہوں نے جہنم اور اس میں تیار کردہ اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کیا، تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا تھا (یعنی جہنم جوش مار رہی تھی)۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ماتَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعِدَهُ بِالغَدَةِ وَالْعَشِيِّ، إِنَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَقَالُ هَذَا مَقْعِدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۱)۔

جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ (اس کی

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۲۸۲۶)، صحیح مسلم، (۲۱۹۹)، حدیث (۲۵۱۵)، حدیث (۳۲۲۰)، حدیث (۲۱۷۹)۔

تَشْهُدُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيِّ شَيْءٍ نَسْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ
مِنَ الْجَنَّةِ حِيثُ شَئْنَا، فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ،
فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يَتَرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبُّ
نَرِيدُ أَنْ تَرْدَ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّىٰ نُقْتَلُ فِي
سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى...“ (۱)۔

ان کی رو جیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوں گی، جن کے لئے
قدیلیں ہوں گی جو عرشِ الٰہی میں لٹک رہی ہوں گی، وہ جنت میں
جہاں چاہیں گے سیر کریں گے، پھر انہی قدمیں میں پناہ گیر ہوں
گے، ان کا رب ان کی طرف ایک بار جھانکے گا اور فرمائے گا: کیا
تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہیں گے: (اے اللہ!) ہم جنت
میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور سیر کرتے ہیں، اب اس کے
بعد میں اور کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے؟ تین مرتبہ ان کے ساتھ
یہی معاملہ کیا جائے گا، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ انہیں سوال کئے

(۱) صحیح مسلم، ۲/۱۵۰۲، حدیث (۱۸۸۷)۔

میں لٹکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ
اٹھائے گا اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان سے فرمان
باری تعالیٰ:

﴿وَلَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًاٌ بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾ (۱)۔

اللہ کی راہ میں قتل (شہید) ہونے والوں کو آپ ہرگز مردہ نہ سمجھیں،
 بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے یہاں روزیاں عطا کئے جاتے ہیں۔

کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس
بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ:
”أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طِيرٍ خَضِرٍ، لَهَا قَنَادِيلٌ مَعلَقةٌ
بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حِيثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى
تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطْلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۶۹۔

چھٹا مبحث:

جنت و جہنم کی طرف روانگی:

۱- مومنوں کی جنت کی طرف روانگی:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زَمِرًا حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَهُ وَهَا وَفَتَحَتْ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ طَبَّتْمُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُأْ مِنَ الْجَنَّةِ
حِيثُ نَشاءُ فَنَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (۱)۔

اور جو لوگ تیرے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت
کی طرف روانہ کئے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس

(۱) سورۃ الزمر: ۳۷، ۳۸۔

جانے سے چھٹکارا ہی نہ ملے گا (یعنی پوچھا ہی جاتا رہے گا) تو وہ
کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری رو جیں
ہمارے جسموں میں لوٹا دے، تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں لڑ کر
شہید ہوں... حدیث لمبی ہے۔

وأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى
صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سَتُونَ ذَرَاعًا فِي السَّمَاءِ” (۱)۔

سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ چودھویں شب
کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، پھر ان کے بعد جو دخل ہوں گے وہ
آسمان کے سب سے روشن ستارے کی مانند ہوں گے، نہ وہ پیشتاب
کریں گے، نہ پاخانہ، اور نہ تھوکیں گے، اور نہ ہی ان کی ناک سے
رینٹ نکلے گی، ان کی ^{كَنْجَى} سونے کی ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک ہوگا،
ان کی دھونی عمدہ قسم کی عود کی خوبصورتی ہوگی اور ان کی بیویاں حور عین (بڑی)

== کہتے ہیں جس میں دھونی لینے کے لئے آگ رکھی جاتی ہے، اور مجر (میم کے پیش کے ساتھ) اس جیڑ کو کہتے ہیں جس کو جلا کر دھونی لی جاتی ہے، حدیث میں یہی مراد ہے، ”الولة“ کے معنی لکڑی کے ہیں۔

”النجوج“ ایک قسم کی لکڑی ہے جس سے دھونی لی جاتی ہے، اسے ”النجوج، یلنوج،
أنجج“ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، الف اور نون زائد ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اس کی خوبصورتی
نیزی مراد ہے۔ دیکھئے: انعامی فی غریب الحدیث والاثر، ازان اللاثیر، ۲۹۳، ۲۲، (متترجم)
(۱) صحیح بخاری، حدیث (۳۳۲۷) و صحیح مسلم، حدیث (۲۸۳۳)۔

آجائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور وہاں کے
نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوش حال رہو تم اس
میں ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے
ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت
میں جہاں چاہیں مقام کر لیں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی
اچھا بدلہ ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد
فرمایا:

”أَوْلَ زَمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لِلَّيلِ الْبَدْرِ،
ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ عَلَى أَشَدِ كَوْكَبِ دُرَيٍّ فِي السَّمَاءِ
إِضَاءَةً، لَا يَبْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَفَلُّوْنَ وَلَا
يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الْذَّهَبُ، وَرَشَحُهُمُ الْمَسَكُ،
وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ الْأَلْنَجُوجُ (۱) عَوْدُ الطَّيْبِ،

(۱) ”مجامر“ مجمراً یا مجمراً کی جمع ہے، مجر (میم کے زیر کے ساتھ) اس برتنا کو ==

کھول دیئے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں
گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر
تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات
سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں! کیوں نہیں، لیکن
عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے
دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا
ٹھکانہ بہت ہی براہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبَئْسُ الْمَصِيرُ
إِذَا أَلْقَوُا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تُفُورُ، تَكَادُ تَمِيزُ
مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فُوجٌ سَأَلُوكُمْ خَزْنَتُهَا أَلْمٌ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قَالُوا بَلِيْ قَدْ جَاءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقَلَّا
مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، وَقَالُوا
لَوْ كَنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كَنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،

آنکھوں والی سرخ و سفید) ہوں گی، (سارے لوگ) اپنے باپ آدم
علیہ السلام کی قامت کے برابر سماں ٹھہر لے ہوں گے۔
۲- کافروں کی جہنم کی طرف روانگی:
اللَّهُ أَعْزُزُ وَجْلَ كَارِشَادَهُ:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمْ زَمِرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ وَهَا
فَتَحَتَ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلْمٌ يَأْتِكُمْ رَسُولُنَا
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
قَالُوا بَلِيْ وَلَكِنْ حَقْتَ كَلْمَةَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
قَيْلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَئْسُ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (۱)۔

کافروں کے گروہ کے گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب
وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لئے

(۱) سورۃ الزمر: ۲۶، ۲۷۔

﴿وَإِذَا أَلْقَوَا مِنْهَا مَكَانًا ضِيقًا مُّقْرَنِينَ دَعَوَا هَنالِكَ ثُبُورًا﴾ (۱)۔

اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکلیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لئے موت ہی موت پکاریں گے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهْتَدُ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عَمِيًّا وَبِكُمْ وَصَمًّا مُّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلُّمَا خَبَثَ زَدَنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كَنَا عَظَاماً وَرَفَاتًا أَ إِنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (۲)۔
اللہ جسے ہدایت دے دے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مد دگار اس کے سوا کسی اور کو

(۱) سورۃ الافرقان: ۱۳۔

(۲) سورۃ الاسراء: ۹۷، ۹۸۔

فاعترفو اب ذنبہم فسحقاً لأصحاب السعير﴾ (۱)۔
اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ غصہ کے مارے پھٹ جائے، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروں نے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بیٹھ ک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا یا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو دوری ہو جہنمیوں کے لئے۔

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) سورۃ الملک: ۶ تا ۱۱۔

﴿فَسُوفَ يَعْلَمُونَ إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَلُ

يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجُرُونَ﴾ (۱)۔

عنقریب وہ جان لیں گے۔ جب کہ ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیتے جائیں گے۔ کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿خُذُوهُ فَغَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلُوهُ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةِ ذُرَعَهَا

سَبْعَوْنَ ذَرَاعًاً فَاسْلَكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ

الْعَظِيمِ﴾ (۲)۔

اسے پکڑ لو پھر اسے طوق پہناؤ۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر

اسے ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی ستر ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔

(۱) سورۃ غافر (مومن): ۷۰ تا ۷۷۔

(۲) سورۃ الحلقہ: ۳۰ تا ۳۳۔

پائے، ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، دراں حالیکہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ہماری آئیوں سے کفر کرنے اور یہ کہنے کا بدله ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسِعَرِ يَوْمِ يَسْحَبُونَ فِي

النَّارِ عَلَى وَجْهِهِمْ ذُوقُوا مَسْقَرَ﴾ (۱)۔

بیشک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔ جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیتے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔

نیز ارشاد باری ہے:

(۱) سورۃ القمر: ۳۲، ۳۸۔

محمدًا عبدہ ورسوله، (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) اسکے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں وہ ان میں سے جس سے بھی داخل ہونا چاہیے داخل ہو جائے۔ عتبہ بن غزوہ ان رضی اللہ عنہ سے دنیا اور جنت و جہنم کے بارے میں مروی حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں کہم سے بیان کیا گیا کہ جنت کے پٹوں میں سے دو پٹوں کے درمیان کافاصلہ چالیس سالوں کی مسافت کے برابر ہے، اور یقیناً ایک روز اس پر ایسا بھی آئے گا جس دن وہ بھیڑ بھاڑ سے بھرا ہوگا (۱)۔

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”فِي الْجَنَّةِ ثَمَانُبَابٍ، فِيهَا بَابٌ يَسْمَى الرِّيَانَ“

(۱) صحیح مسلم، ۲۰۹، حدیث (۲۳۳)۔

ساتوال بحث:

جنت و جہنم کے دروازے:

۱- جنت کے دروازے آٹھ ہیں:

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَا منكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوضوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، إِلَّا فُتْحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ“ (۱)۔

تم میں سے جو کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر کہتا ہے: ”أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن

(۱) صحیح مسلم، ۲۰۹، حدیث (۲۳۳)۔

لَا يدخله إِلَّا الصَّائِمُونَ“ (١)۔

جنت میں آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ”ریان“ ہے جس سے روزہ دار لوگ ہی داخل ہوں گے۔

اور کبھی مسلمان ان تمام دروازوں سے بھی داخل ہوگا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مِنْ أَنْفَقَ زَوْجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ“، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَأْبِي أَنْتَ وَأَمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مِنْ دُعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يَدْعُى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كَلْهَا؟

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۲/۳۲۵) و صحیح مسلم، حدیث (۲/۱۸۹)۔

قال: ”نعم، وأرجو أن تكون منهم“ (۱)۔

جس نے اللہ کی راہ میں دوجوڑے (چیزیں) خرچ کئے اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا: کہ اے اللہ کے بندے! یہ بہتر ہے، چنانچہ جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلا یا جائے گا، جو مجاہدین میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلا یا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے ”ریان“ نامی دروازے سے بلا یا جائے گا اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازہ سے بلا یا جائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان تمام دروازوں سے کسی کا بلا یا جانا آسان تو نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلا یا جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو گے۔

(۱) صحیح بخاری، مع فتح الباری، ۲/۱۱۱، حدیث (۱۸۹)۔

کھو لے جائیں گے۔

اور جہنمیوں پر جہنم بند ہو گی، ارشاد ربانی ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَيْمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ (۱)۔

اور جن لوگوں نے ہماری آئیوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بخوبی والے ہیں۔ ان پر آگ ہو گی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہو گی۔
نیز فرمایا:

﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مَمْدُودَةٍ﴾ (۲)۔

وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہو گی۔ بڑے بڑے ستونوں میں۔
کہا جاتا ہے: ”أَوْصَدْتِ الْبَابَ وَآصَدْتَهُ“، یعنی میں نے دروازہ کو
اچھی طرح بند کر دیا (۳)، چنانچہ جہنمیوں پر جہنم کے دروازے بند ہیں، نہ

(۱) سورۃ البلد: ۱۹، ۲۰۔

(۲) سورۃ الحمز: ۸، ۹۔

(۳) مفردات الفاظ القرآن للاصفہانی، ج ۲ ص ۸۷۶۔

۲۔ جہنم کے دروازے:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِن جَهَنَّمْ لِمَوْعِدِهِمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ (۱)۔

یقیناً ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے۔ جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازہ کے لئے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔

اور جہنمیوں کے لئے جہنم کا دروازہ ان کے وہاں پہنچنے کے بعد کھولا جائے گا، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمْ زَمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ وَهَا فُتُحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ (۲)۔

کافروں کے گروہ کے گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لئے

(۱) سورۃ الحجر: ۲۲، ۲۳۔

(۲) سورۃ الزمر: ۱۷۔

جب ماہ رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلانہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارتے والا پکارتا ہے: اے بھلائی کے چاہنے والے! آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے! پیچھے ہٹ، اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔

اس میں کوئی خوشی داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی رنج و غم خارج ہو سکتا ہے (۱)۔

جہنم کے دروازے رمضان میں بند کئے جاتے ہیں، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا كَانَ أَوْلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجَنِّ، وَغَلَقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فِيمَا يَفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ، وَفَتَحَتِ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ فِيمَا يَغْلِقُ مِنْهَا بَابٌ، وَيَنْدَدِي مَنَادٌ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبَلُ، يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصَرُ، وَلِلَّهِ عِنْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ“ (۲)۔

(۱) تفسیر امام بیغوی، ۳/۵۲۳، ۳۹۱ و تفسیر ابن کثیر / ۴/۵۱۶، ۵۲۹۔

(۲) سنن ترمذی (انہی الفاظ کے ساتھ) ۳/۵۷۵ و نسائی، حدیث (۲۱۰۸ تا ۲۰۹۷) و ابن ماجہ، حدیث (۱۶۲۲) و ابن خزیم، ۳/۱۸۸، اس حدیث کی اصل صحیح بخاری حدیث (۳۲۷) اور صحیح مسلم، حدیث (۹۷۰) میں ہے۔

فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً، فرجع إليها، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع فانظر إليها، [فرجع إليها] فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها“ (۱)۔

جب اللہ نے جنت و جہنم کی تخلیق فرمائی تو جریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ جنت اور میں نے اس میں جنتیوں کے لئے جو کچھ تیار کر کھا ہے انہیں دیکھو، فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور جنت اور اس میں جنتیوں کے لئے تیار کردہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، فرماتے ہیں کہ پھر لوٹ کر اللہ کے پاس آئے اور فرمایا: تیری عزت کی قسم! جو بھی اس کے بارے میں سنے گا

(۱) سنن ترمذی مع تخریج الاحوزی، ۷/۲۸۱، وسنن نسائی وغیرہما، بین القویین کے الفاظ ترمذی کے ہیں، علامہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن نسائی (۲/۷۹، حدیث ۳۵۲۳) اور صحیح سنن ترمذی (۲/۳۱۸، حدیث ۲۰۷۵) میں حسن قرار دیا ہے۔

آٹھواں بحث:

جنت و جہنم کا حجاب:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال: فرجع إليها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليها، وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها

دوبارہ گئے اور دیکھا کہ اسے شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، لوٹ کر اللہ کے پاس آئے اور کہا: تیری عزت کی قسم! مجھے اندر لشہ ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا مگر اس میں داخل ہو گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره“ (۱)۔

جہنم کو من چاہی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔

یہاں ”شهوات“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے انجام دینے یا ترک کرنے میں مکلف کو اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے قولی و عملی طور پر عبادتوں کی کما حقہ انجام دہی اور ان کی پابندی، نیز منع کردہ امور سے اجتناب و احتراز (۲)۔

(۱) بخاری میع ثقیق الباری، ۱۱/۳۲۰، حدیث (۷۲۸۷) صحیح مسلم، ۲/۲۷۸، حدیث (۲۸۲۲)۔

(۲) دیکھئے: ثقیق الباری، ۱۱/۳۲۰۔

داخل ہی ہو جائے گا، چنانچہ اللہ نے حکم دیا اور اسے ناپسندیدہ (نفس پر گراں گزرنے والی اشیاء) سے گھیر دیا گیا، پھر فرمایا: دوبارہ جاؤ اور اسے اور اس میں جنتیوں کے لئے میں نے جو کچھ تیار کر کھا ہے، اسے دیکھو، فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ گئے تو دیکھا کہ اسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، لوٹ کر اللہ عزوجل کے پاس آئے اور فرمایا: تیری عزت کی قسم! مجھے اندر لشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکے گا، (اللہ نے) فرمایا: جاؤ جہنم اور جہنم میں جہنیوں کے لئے میں نے جو کچھ (عذاب) تیار کر کھا ہے اسے دیکھو، انہوں نے جہنم اور اس میں تیار کردہ اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کیا، تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا تھا (یعنی جہنم جوش مار رہی تھی)، لوٹ کر اللہ کے پاس آئے اور فرمایا: تیری عزت کی قسم! اس کے بارے میں سن کر کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، چنانچہ اللہ نے حکم دیا اور اسے شہوات (جن چیزوں کی طرف نفس کا میلان ہو) سے گھیر دیا گیا، پھر فرمایا: جاؤ دوبارہ جاؤ کر دیکھو، وہ

جہاں تک جائز و حلال خواہشات کا مسئلہ ہے تو وہ ان میں داخل نہیں ہیں، لیکن کثرت سے ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے، اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں وہ حرام تک نہ پہنچا دیں، یادل سخت کر دیں، یا اطاعت سے غافل کر دیں، یادنیا کے حصول پر توجہ دینے پر مجبور کر دیں (۱)۔

یہ حدیث بڑی انوکھی، فصح اور نبی کریم ﷺ کو عطا کردہ حسین مثال وغیرہ پر مشتمل جامع کلمات میں سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جنت تک ناپسندیدہ چیزوں کے اور جہنم تک شہوات کے ارتکاب سے ہی پہنچا جا سکتا ہے، اسی طرح جنت و جہنم کو ان دونوں چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، لہذا جو بھی گھیرا توڑے گا گھیرے کے اندر جا پہنچ گا، چنانچہ جنت کی پرده دری ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب ہے اور جہنم کی پرده دری شہوات (من چاہی چیزوں) کا ارتکاب ہے۔

ناپسندیدہ چیزوں میں عبادات میں جدوجہد، ان کی پابندی، ان کی دشواریوں پر صبر و ضبط، غصہ پینا، معاف کرنا، حلم و بردباری، صدقہ، بدسلوک کے ساتھ حسن سلوک اور خواہشات نفس کو لگام دینا وغیرہ شامل ہیں۔

رہی وہ من چاہی چیزیں جن سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام خواہشات ہیں، جیسے شراب، زنا کاری، غیر محروم کو دیکھنا، غیبت، پھلخواری، آلات لہو و لعب کا استعمال وغیرہ۔

(۱) دیکھئے: صحیح مسلم بشرح نووی، ۷/۱۶۵۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ! تو وہ کہے گا: آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لئے دروازہ نہ کھلوان۔

انہی سے ایک دوسری روایت ہے، کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا:
”أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أُولُو الْيَقْرَعِ
بَابَ الْجَنَّةِ“ (۱)۔

قیامت کے روز انبیاء میں سب سے زیادہ پیر و کار میرے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازہ پر دستک دوں گا۔

(ب) امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

”نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أُولُو مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بِيَدِ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ قَبْلَنَا وَأُوتُينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ“

(۱) صحیح مسلم، ۱/۱۸۸، حدیث (۱۹۶)۔

نوال بحث:

جنت و جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے:

۱- سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا:

(الف) جنت میں سب سے پہلے محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ داخل ہوں گے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”آتَيْتُ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتَحْ، فَيَقُولُ

الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بَكَ

أَمْرَتْ لَا أَفْتَحْ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ“ (۱)۔

میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، تو داروغہ کہے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: محمد

(۱) صحیح مسلم، ۱/۱۸۸، حدیث (۱۹۷)۔

فرمایا:

”يَدْخُلُ الْفَقَرَاءِ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسَمِائَةِ عَامٍ،
نَصْفِ يَوْمٍ“ (۱)۔

فقراء مالداروں سے پانچ سو سال یعنی قیامت کے آدھے دن،
پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

اور ایک روایت میں ہے:

”يَدْخُلُ فَقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنَصْفِ
يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسَمِائَةُ عَامٍ“ (۲)۔

مسلمان فقراء مالداروں سے (قیامت کے) آدھے دن پہلے
جنت میں داخل ہوں گے، جو پانچ سو سالوں کے برابر ہے۔
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۲۳۷۲) و ابن الجہ، حدیث (۳۱۲۲) علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدث کو صحیح سنن ترمذی (۲۷۵/۲) اور صحیح سنن ابن الجہ (۳۹۷/۲) میں حسن قرار دیا ہے۔

(۲) سنن ترمذی، حدیث (۲۳۷۳)، نیزد یکھنے: حدیث سابق۔

فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له [قال:
يوم الجمعة] فال يوم لنا، وغداً لليهود، وبعد غدٍ
للنصارى“ (۱)۔

ہم سب سے آخری لوگ (امت) قیامت کے دن سب سے پہلے
ہوں گے، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ
انہیں (یہود و نصاریٰ کو) ہم سے پہلے اور ہمیں ان کے بعد کتاب
دی گئی ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ نے ہمیں ان کے
اختلاف کردہ امر میں ہدایت عطا فرمائی، چنانچہ یہی وہ ان کا دن
ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی
فرمائی، [فرماتے ہیں: وہ جمعہ کا دن ہے] چنانچہ آج کا دن ہمارا
ہے، کل یہود یوں کا اور پرسوں نصاریٰ (عیسائیوں) کا۔

(ج) فقراء:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

(۱) صحیح مسلم، ۵۸۵، حدیث (۸۵۵)۔

دونوں حدیثوں میں تطہیق کی صورت (واللہ اعلم) یہ ہے کہ محتاجوں اور مالداروں کے حالات کے اعتبار سے بعض فقراء مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور بعض فقراء (مالداروں سے) چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح گند گار موحدین اپنے حالات کے سبب دیر تک ٹھہرے رہیں گے، اور فقیروں کے جنت میں پہلے داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مالداروں سے ان کے درجات بھی بلند ہوں، بلکہ بعد میں داخل ہونے والا سماوقات اونچے مقام و مرتبہ کا ہوتا ہے گرچہ اس کے علاوہ کوئی اس سے پہلے ہی داخل ہوا ہو، چنانچہ اگر مالدار کی مالداری کا حساب لیا جائے، اور وہ اس پر اللہ کا شکرگزار اور نیکی، بھلائی، صدقہ اور نیک کاموں کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا پایا جائے، تو وہ اس (جنت) میں پہلے داخل ہونے والے محتاج جس کے پاس یہ اعمال خیر نہیں ہیں سے بلند مرتبہ پر فائز ہوگا، بالخصوص جبکہ مالدار اس محتاج کے اعمال میں بھی شریک ہو اور مزید انجام دیا ہو، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (در اصل) خصوصیت و طرح کی

فرمایا:

”يَدْخُلُ فَقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَغْنِيَاهُمْ بِأَرْبَعينَ خَرِيفًا“ (۱)۔

محتاج مسلمان مالدار مسلمانوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”إِنَّ فَقَرَاءَ الْمَهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعينَ خَرِيفًا“ (۲)۔

یعنیک محتاج مهاجرین قیامت کے دن مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۲۳۲۳)، دیکھئے: صحیح سنن ترمذی، ۲/۲۵، نیز دیکھئے: تختۃ الاحدذی، ۷/۲۳۳۱۸۔

(۲) صحیح مسلم، ۲/۲۸۵، حدیث (۲۹۷۹)۔

قاتل فیک حتی استشهدت، قال: کذبت، ولكن
قاتل؛ لأن يقال جریء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب
على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه
وقرأ القرآن، فأتي به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما
عملت فيها؟ قال: تعلم العلم وعلمه وقرأت فيك
القرآن، قال: کذبت، ولكن تعلم العلم، ليقال
عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قاريء، فقد قيل، ثم أمر
به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع
الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه
نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال:
کذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم
أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار“ (۱)۔

(۱) صحیح مسلم، ۱۵۱۲/۳، حدیث (۱۹۰۵)۔

ہوتی ہے: سبقت، اور بلندی مقام، کبھی یہ دونوں خصوصیتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور کبھی الگ الگ، چنانچہ کبھی ایک شخص کو (سبقت اور بلندی مقام) دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرا دونوں سے محروم ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی ایک کو سبقت حاصل ہوتی ہے تو بلندی نہیں، اور دوسرا کو بلندی مقام حاصل ہو جاتا ہے تو سبقت نہیں، یہ ساری چیزیں دونوں چیزوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے مقابلی یا غیر مقابلی سبب کے اعتبار سے ہوا کرتی ہیں، توفیق دہنده اللہ کی ذات ہے (۱)۔

۲- قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہو گا وہ تین لوگ ہوں گے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

”إن أول من يقضى يوم القيمة عليه رجال استشهد، فأتي به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال:

(۱) دیکھئے: حادی الارواح الی بلاد الافراح، لابن القیم، ص ۱۳۲۔

حکم ہوگا یہاں تک کہ اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تیسرا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ نے فراخی عطا فرمائی ہوگی اور ہم قسم کے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں پچھوائے گا تو وہ پیچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں نے تیری پسند کے ہر راستہ میں (دل کھول کر) تیری رضا کے لئے خرج کیا، اللہ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لئے کیا تھا تاکہ تجھے سخنی اور فیاض کہا جائے، اور کہا بھی گیا، پھر حکم ہوگا یہاں تک کہ اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

قيامت کے دن جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا جسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں پچھوائے گا (یاد لائے گا) تو وہ پیچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جہاد اس لئے کیا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا بھادر کہا جائے، اور تجھے کہا بھی گیا، پھر حکم ہوگا، یہاں تک کہ اسے اس کے پھرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا اور قرآن پڑھا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں پچھوائے گا تو وہ پیچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں کا کیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور (تیرے دین کی خاطر) قرآن پڑھا، اللہ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لئے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لئے پڑھا تھا تاکہ فاری کہا جائے، اور کہا بھی گیا، پھر

سے یہ بات نکلے گی ”سبحان اللہ“ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا ”السلام علیکم“ اور ان کی آخری بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، والذین
یصلوون ما امر اللہ به اُن یوصل ویخشوون ربہم
ویحافون سوء الحساب والذین صبروا ابتجاء وجه
ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممما رزقناہم سرًا وعلانیة
ویدرءون بالحسنة السیئة أولئک لہم عقبی الدار
جنت اعدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم وأزواجهم
وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام
علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار﴾ (۱)۔
جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے

(۱) سورۃ الرعد: ۲۰- ۲۲۔

سوال بحث:

جنیتوں اور جہنمیوں کی سلامی:

۱- جنیتوں کی سلامی:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ
بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
دُعَوَاهُمْ فِيهَا سَبَحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحْمِلُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَآخِرُ دُعَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱)۔

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا نعمت کے بغول میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منه

(۱) سورۃ یسوس: ۹- ۱۰۔

إِذَا ادَارُوكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رِبُّنَا
هُؤُلَاءِ أَضْلَوْنَا فَآتَهُمْ عَذَاباً ضَعِيفاً فِي النَّارِ قَالَ لِكُلِّ
ضَعْفٍ وَلَكُنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾۔

الله تعالى فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار! ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، لہذا انہیں دوزخ کا عذاب دو گناہ دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا عذاب دو گناہ ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿هَذَا وَإِن لِلطَّاغِينَ شَرٌّ مَآبٌ جَهَنَّمُ يَصْلُوْنَهَا فَبَئْسٌ﴾

(۱) سورۃ الاعراف: ۳۸۔

نہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑ نے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لئے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے خفیہ و علانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلانی سے ٹالتے ہیں، اور انہیں کے لئے عاقبت کا گھر ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتہ ہر ہر دروازے سے آئیں گے۔ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بد لے تو عاقبت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔

۲۔ جہنمیوں کی سلامی:

اللہ عزوجل نے جہنمیوں کی سلامی کے سلسلہ میں فرمایا:

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كَلِمًا دَخَلْتُ أَمْمَةً لَعْنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا مُّوْدَةً بِّينَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِعَصْبَعِكُمْ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَالُكُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ﴾ (۱)۔

(ابراهیم علیہ السلام نے) کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بناٹھرا لی ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کاٹھکانہ دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو گا۔

(۱) سورۃ الحکوبت: ۲۵۔

المهاد هذا فليذوقوه حميماً وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحاً بهم إنهم صالحوا النار قالوا بل أنتم لا مرحاً بكم أنتم قد متّمموه لنا فينس القرار ﴿۱﴾۔

یہ تو ہوئی جزا، اور یقیناً سرکشوں کے لئے بڑی بربادی جگہ ہے۔ دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی براچھونا ہے۔ یہ ہے، پس اسے چکھیں، گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) جانے والی ہے، کوئی خوش آمدیدان کے لئے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہی ہو جن کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لارکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بربادی جگہ ہے۔

نیز اللہ عز وجل نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا:

(۱) سورۃ حس: ۲۰ تا ۲۵۔

الله عَزِيزٌ ! وأين ذلک الواحد؟ قال: "أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج و Majog ج ألف". ثم قال: "والذی نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة". فكبّرنا، فقال: "أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة". فكبّرنا، فقال: "أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة". فكبّرنا، فقال: "ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود" (۱)۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم (علیہ السلام)! تو وہ کہیں گے، حاضر ہوں، باریابی کے لئے حاضر ہوں، اور تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جہنم کی ٹولی کونکالو، تو وہ عرض کریں گے: جہنم کی ٹولی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نو سو نانوے (۹۹۹)، ایسے خوفناک موقع پر بچھی بورڑا

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۳۸۲/۶، حدیث (۳۳۲۸) و مسلم /۲۰۱، حدیث (۲۲۲)۔

گیارہواں مبحث:

جنتیوں اور جہنمیوں کی اکثریت:

۱- جنتیوں کی اکثریت:

(الف) امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: ليك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد" فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول

(ب) فقراء:

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 ”اطلعت فی الجنة فرأیت أکثر أهلهما الفقراء،
 واطلعت فی النار فرأیت أکثر أهلهما النساء“ (۱)۔
 میں نے جنت میں جہان کا تو دیکھا کہ جنتیوں کی اکثریت فقیر و محتاج
 افراد ہیں، اور جہنم میں جہان کا تو دیکھا کہ جہنمیوں کی اکثریت
 عورتیں ہیں۔

(ج) عورتیں:

حور عین اور دنیا کی عورتوں سمیت جنتیوں کی اکثریت عورتیں ہوں گی،
 رہیں صرف دنیا کی عورتیں تو وہ جنت میں سب سے کم اور جہنم میں سب
 سے زیادہ ہوں گی (۲)، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابن علی رحمہ اللہ فرماتے
 ہیں کہ ہمیں ایوب نے محمد کے واسطے سے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا:

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۳۲۲۱)، (۴۲۲۹، ۵۱۹۸، ۲۵۳۶)۔

(۲) حادی الارواح لابن القیم، ص ۱۳۲۔

ہو جائے گا، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضع کر دے گی، اور آپ
 لوگوں کو نشے کی حالت میں (بد مست) دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے
 میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، یہ چیز لوگوں پر
 بڑی گراں اور شاق گزری، صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے
 رسول! وہ (ایک ہزار میں سے) ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ
 نے فرمایا: خوش ہو جاؤ، ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار
 (قوم) یا جوج و ماجون میں سے، پھر آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم:
 جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنتیوں کی ایک
 چوتھائی تعداد تمہاری ہوگی، یہ سن کر ہم نے کہا ”اللہ اکبر“ تو آپ
 نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ جنتیوں کی ایک تہائی تعداد تمہاری ہوگی،
 ہم نے (پھر) کہا ”اللہ اکبر“ پھر آپ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ
 جنتیوں کی آدھی تعداد تمہاری ہوگی، ہم نے (پھر) کہا ”اللہ اکبر“ تو
 آپ نے فرمایا: تمہاری تعداد تو لوگوں میں بس سفید بیل کے جسم
 میں کالے بال یا کالے بیل کے جسم میں سفید بال کی طرح ہے۔

(ظاہر ہے کہ جب ہر مرد کی دو عورتیں ہوں گی اور کوئی کنوارانہ ہوگا تو عورتوں کی تعداد مردوں کی دو گئی ہو گئی اور اس طرح جنت میں عورتوں کی اکثریت ثابت ہو گئی)۔

۲۔ جہنمیوں کی اکثریت:

(الف) یا جو ج و ما جو ج:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا کہ وہ ہر ہزار میں سے نو سو نانوے (۹۹۹) کے حساب سے جہنم کا گروہ نکال لیں، پھر اللہ کے نبی ﷺ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ کی امت کا ایک شخص ہو گا اور قوم یا جو ج و ما جو ج سے ایک ہزار ہوں گے (۱)۔

(ب) عورتیں:

جہنمیوں میں اکثر عورتیں ہوں گی کیونکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(۱) اس حدیث کی تخریج گز رچکی ہے، صحیح بخاری مع فتح الباری، ۶، ۳۸۲/۶، صحیح مسلم /۱، ۲۰۱۔

”چاہے باہم خُر کرو یا مذاکرہ کرو (یہ بتاؤ) کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا ابوالقاسم ﷺ نے نہیں فرمایا ہے کہ:

”إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءةً، لكل امرئ منهم زوجتان اثنستان، يرى مخ سو قهمًا من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب“ (۱)۔

بیشک سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہو گی وہ چودہ ہویں شب کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، پھر ان کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے کی مانند ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کی دودو بیویاں ہوں گی، جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی کنوارانہ ہوگا۔

(۱) صحیح مسلم (انہی الفاظ کے ساتھ)، ۱/۲۱۷۹، صحیح بخاری، حدیث (۳۲۳۶، ۳۲۵۸)۔

”اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء،
وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء“ (۱)۔
میں نے جنت میں جہان کا تو دیکھا کہ جنتیوں کی اکثریت فقیر و محتاج
افراد ہیں، اور جہنم میں جہان کا تو دیکھا کہ جہنمیوں کی اکثریت
عورتیں ہیں۔

”يا عشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني
رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: وما
لنا يا رسول الله ﷺ أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن
اللعن وتکفرن العشير“ (۱)۔

اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو،
کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے، (یہ سن کر) ان
میں سے ایک جرأتمند خاتون نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ!
کیا وجہ ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا:
(کیونکہ) تم عورتیں بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی
ناشکری کرتی ہو۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا:

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۳۲۳۱)، حدیث (۵۱۹۸)، حدیث (۴۲۳۹)، حدیث (۶۵۳۶)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۳۰۵، حدیث (۳۰۳)، مسلم ۱/۸۱، حدیث (۷۹)۔

اور بغیر جہاد کے بیٹھ رہنے والے مؤمن برابر نہیں، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی، اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخششے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمْنَ بَاءَ بِسْخَطِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَئْسُ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (۱)۔

کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے؟ اور اس کا ٹھکانہ

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۴۲، ۱۴۳۔

بارہواں بحث:

جنت کے درجات اور جہنم کی کھائیاں:

۱- جنت کے مراتب و درجات:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الضررِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ درجۃ وَكَلَّا وَعْدَ اللَّهِ الْحَسِنِي وَفَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (۱)۔

اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مؤمن

(۱) سورۃ النساء: ۹۵، ۹۶۔

اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس
بڑے درجے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا:

”إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِيُتَرَأَوْنَ أَهْلَ الْغَرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا
تَرَأَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِيَ الْغَابِرَ^(۱) مِنَ الْأَفْقِ مِنْ
الْمَشْرِقِ أَوْ مِنَ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضَلِ مَا بَيْنَهُمْ“۔ قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَلَكَّ مَنَازِلَ الْأَنْبِيَاءِ، لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ.
قَالَ: ”بَلِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ رَجُالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَقُوا
الْمُرْسَلِينَ“^(۲)۔

(۱) الغابر: اس ستار کے کچھ ہیں جو ڈوبنے کے قریب ہو، اور آنکھوں سے اوچھل ہو جائے۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۵/۳۲۰، حدیث (۳۲۵۶) / طبعہ دارالسلام ریاض (صحیح مسلم)
(الفاظ اسی کے ہیں) ۲۸۳۱/۲۷۷، حدیث (۲۸۳۱)۔

جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ عزوجل کے پاس ان کے الگ
الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھے
رہا ہے۔

مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تُلِيهِمْ آيَاتُهُ زادُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ
يَنْفَقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ درجات عند
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا﴾^(۱)۔

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے
تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی
جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ
لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں

(۱) سورۃ الانفال: ۲۷-۲۸۔

سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور (جنت کے منازل پر) چڑھتا جا،
چنانچہ وہ پڑھے گا اور ہر آیت پر ایک درجہ چڑھتا جائے گا، اسی
طرح اسے جتنا یاد ہو گا اس کے اخیر تک پڑھے گا۔

عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

”يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت
ترتل في الدنيا، فإن من _____ زلتک عدد آخر آية
تقرأها“ (۱)۔

صاحب قرآن سے کہا جائے گا: پڑھ اور (جنت کے منازل)
چڑھ، اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا
تھا، کیونکہ تیرامرت بہ اس آخری آیت کے پاس ہے جسے تو پڑھے گا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۳۰۹۳)، و مسندا حمیر / ۲، علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن
ترمذی (۳/۱۰) میں حسن قرار دیا ہے۔

پیشک جنتی لوگ بالاخانوں میں رہنے والوں کو باہم فرق مراتب کے
سبب، ان کے اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا
مغربی کنارہ میں ٹھہماتے ہوئے روشن ستارے کو دیکھتے ہو، صحابہ
کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ توبیوں کی منزلیں ہوں
گی جہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا! تو آپ ﷺ نے
فرمایا: ہاں! اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ
ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔

ابوسعید خدري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے
فرمایا:

”يقال لصاحب القرآن يوم القيمة إذا دخل الجنة:
اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ
آخر شيء معه“ (۱)۔

صاحب قرآن قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہو گا تو اس

(۱) مسندا حمیر / ۳، ۳۰/۳۔

فرمایا:

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم لوگوں کو اس بات کی خبر نہ
کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا:

بیشک جنت میں سو (۱۰۰) درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ
میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، ہر درجہ کے درمیان
کی دوری آسمان و زمین کی درمیانی مسافت کے مثل ہے، لہذا،
جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانی حصہ
ہے اور جنت کا سب سے اوپر حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمٰن کا
عرش ہے، نیز جنت کی نہریں اسی سے پھوٹی ہیں۔

جنت کے بلند ترین درجات میں سے ”وسیلہ“ بھی ہے، چنانچہ عبد اللہ
بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے
ہوئے سننا:

”إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤْذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صُلُوا
عَلَيْيٍ، فَإِنَّهُ مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَوةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَهَا
عَشْرًا، ثُمَّ سُلُوا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ
عَشْرًا“

”من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان،
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله
أو جلس في أرضه التي ولد فيها“. قالوا: يا رسول الله!
الله! ألا ننبي الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة مائة
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجةتين
ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله
فأسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة،
وفوقة عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة“ (۱)۔

جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور
ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں
داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں بھرت کرے یا جس سرز میں
میں اس کی پیدائش ہوئی ہوا سی میں بیٹھا رہے، لوگوں (صحابہ)

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱۳/۶۰۲، حدیث (۲۷۹۰)۔

۲۔ جہنم کی کھانیاں اور اس کی گہرائی:

جب کوئی چیز ایک دوسرے سے اوپر ہو تو اسے ”درج“ اور اگر ایک دوسرے سے نیچے ہو تو ”درک“ کہتے ہیں، چنانچہ جنت کے ”درجات“ (مراتب) ہوتے ہیں اور جہنم کے ”درکات“ (تہیں اور گہرائی) ہوتے ہیں، البتہ کبھی کبھار جہنم کی تہیں اور گہرائی کو بھی ”درجات“ کہا جاتا ہے (۱)، جیسا کہ اللہ عزوجل نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَلُكْلُ درجات مما عملوا﴾ (۲)۔

اور ہر ایک کے اپنے کرتوت کے مطابق درجات ہیں۔

نیز منافقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدِّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (۳)۔

(۱) دیکھئے: التویف من النار والتعزیف بحال دارالموار، لابن رجب، ص ۶۹۔

(۲) سورۃ الانعام: ۱۳۲:-

(۳) سورۃ النساء: ۱۳۵:-

لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو،
فمن سأله الله لي الوسيلة حللت له الشفاعة“ (۱)۔

جب تم موزن کو (اذان کہتے ہوئے) سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر میرے لئے مقام ”وسیلہ“ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی بندے کے لئے مناسب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، چنانچہ جو میرے لئے (اللہ سے) وسیلہ کا سوال کرے گا اس کے لئے شفاعت حلال ہو جائے گی۔

نبی کریم ﷺ کے درجہ کا نام ”وسیلہ“ اس لئے ہے کہ وہ حُنَفَ (اللہ عزوجل) کے عرش سے سب سے قریب ترین درجہ ہے اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب درجہ ہے۔

(۱) صحیح مسلم / ۲۸۸، حدیث (۳۸۲)۔

سویا کرتے تھے (۱)۔

عبد بن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ جہنم کی (اتھا) گھرائی سے متعلق فرماتے ہیں：“...ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کے منہ سے پھر پھیکا جاتا ہے اور وہ اس میں ستر سالوں تک جاتا رہتا ہے، لیکن تب بھی اس کی تک نہیں پہنچتا، اور اللہ کی قسم! جہنم بھی یقیناً بھر جائے گی، کیا تمہیں تعجب ہے!! (۲)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کھلکھل کی آواز سنائی پڑی، نبی کریم ﷺ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں، تو آپ ﷺ سے بیان کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۱۱۲۱) و مسلم، حدیث (۲۷۹)۔

بیشک منافقین جہنم کی سب سے نخلی تھے میں ہوں گے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا دو فرشتے انہیں اٹھا کر جہنم کی طرف لے گئے ہیں، اور کنوے کے منڈری کی طرح جہنم کے منہ پر منڈری بنی ہوئی ہے، اور اس کی دو سینگیں ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں میں نے پہچان لیا، اور کہنے لگا: ”أعوذ بالله من النار“ میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے فرشتے سے ہماری ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا: گھبراومت، فرماتے ہیں کہ: میں نے اس خواب کو حفصہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا اور پھر حفصہ رضی اللہ عنہما نے اسے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”نعم الرجل عبد الله لو كان يصلی من الليل“۔

عبد اللہ کیا خوب آدمی ہیں اگر رات میں کچھ نمازیں پڑھا کریں۔

چنانچہ اس کے بعد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت کم ہی

يَهُوِي فِي النَّارِ إِلَآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا،“ (١)۔

یا ایک پتھر ہے جسے (آج سے) ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ اب تک جہنم کی گہرائیوں میں جا رہا تھا یہاں تک کہ اب اس کی نہ میں پہنچا۔

تیر ہواں بحث:

سب سے معمولی درجہ کا جنتی اور سب سے مکے عذاب سے دوچار جہنمی:

۱- سب سے معمولی درجہ کا جنتی:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

”إِنِّي لَأَعْلَمُ أَخْرَ أَهْلَ النَّارِ خَرُوجًا مِنْهَا، وَآخْرَ أَهْلَ
الجَنَّةِ دُخُولًا إِلَيْهَا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوًا فَيَقُولُ
اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا
فِي خَيْلٍ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجْدَتْهَا
مَلَأَى، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ
الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَأْتِيهَا فِي خَيْلٍ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ

(۱) صحیح مسلم، ۲۸۳۷، حدیث (۲۸۳۷)۔

اللہ سے کہے گا: اے رب! میں نے اسے بھرا ہوا پایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا، فرماتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا اور اسے محسوس ہو گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ دوبارہ واپس ہو گا اور کہے گا: اے پروردگار! میں نے اسے بھرا ہوا پایا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لئے دنیا اور اس سے دس گنا زیادہ نعمتیں ہیں، یا تیرے لئے دنیا کی دس گنا نعمتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ تو وہ شخص کہے گا: (اے اللہ!) کیا تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، یا مجھ سے ہنسی کرتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ (اس زور سے) ہنسے کہ آپ کے داڑھ کے دانت ناظر ہو گئے، فرماتے ہیں کہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے معمولی درجہ کا جنتی ہو گا۔

عبد اللہ بن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیث میں درخت والے کا قصہ مذکور ہے جو سب سے معمولی درجہ کا جنتی ہو گا، اس

فیقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وإن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي [أو تضحك بي] وأنت الملك؟“ . قال: فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضاحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة“ (۱)۔

میں سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کو جانتا ہوں، وہ ایک ایسا آدمی ہو گا جو سرین کے بل گھست کر جہنم سے نکلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت کے پاس آئے گا تو اسے محسوس ہو گا کہ جنت بھر چکی ہے، وہ واپس ہو گا اور

(۱) صحیح بخاری، ۱/۳۱۸، حدیث (۶۵۷)، ۲/۳۷، حدیث (۶۷) و ۲/۳۷، حدیث (۱۱۵) صحیح مسلم، ۱/۱۳۷، حدیث (۱۸۶)۔

میں ہے:

عطای کی گئی ہیں اتنی اور کسی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:
”سُؤالٌ موسىٰ رَبِّهِ: مَا أَدْنَى أَهْلَ الْأَرْضِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ
رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدِ مَا أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فِيَّا
أَدْخَلَ الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ: أَيُّ رَبٍ كَيْفَ وَقَدْ نَزَّلَ النَّاسَ
مَنَازِلَهُمْ وَأَخْذَوْا أَخْذَاتِهِمْ؟“^(۱) فَيَقُولُ رَبِّهِ: أَتَرْضَى أَنْ
يَكُونَ لَكَ مَثَلٌ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟
فَيَقُولُ: رَضِيتَ رَبِّيْ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمُثْلُهُ، وَمُثْلُهُ،
وَمُثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتَ رَبِّيْ، فَيَقُولُ هَذَا
لَكَ وَعَشْرَةً أَمْثَالَهُ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذْتَ
عَيْنَكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتَ رَبِّيْ...“ الحدیث^(۲)۔
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ سب سے

(۱) ”أَخْذُوا أَخْذَاتِهِمْ“ سے اللہ تعالیٰ انہیں جو عزت و تکریم اور نعمتیں عطا فرمائے گا وہ مراد ہے۔

(۲) صحیح مسلم، ۱/۱۷۶، حدیث (۱۸۹)۔

”وَيَذْكُرُهُ اللَّهُ: سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ
الْأَمَانِي قَالَ اللَّهُ: هُوَ لَكَ وَعَشْرَةً أَمْثَالَهُ، ثُمَّ يَدْخُلُ
بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، فَتَقُولُ لَهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَاكَ لَكَ، فَيَقُولُ: مَا
أُعْطَيْتِيْ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطَيْتِيْ“^(۱)۔

کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا، کہ یہ مانگ لے، یہ مانگ لے،
جب (مانگ کر) اس کی ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ
تعالیٰ فرمائے گا: تیرے لئے یہ اور اس کی دس گناہ نعمتیں ہیں، پھر وہ
اپنے گھر میں داخل ہو گا اور حور عین میں سے اس کی دونوں یوں یاں
بھی داخل ہوں گی، اور اس سے کہیں گی: تمام تعریفیں اللہ کے لئے
ہیں جس نے تمہیں ہمارے لئے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں
تمہارے لئے زندگی عطا فرمائی، تو وہ کہے گا: جتنی نعمتیں مجھے

(۱) صحیح مسلم، ۱/۱۷۵، ۱/۱۷۳، حدیث (۱۸۸، ۱۸۷)۔

۲۔ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب میں بنتا شخص، جہنم کی گرمی کی شدت اور جہنمیوں کا عذاب میں کم و بیش ہوتا: نعماں بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سننا:

”اَنَّاهُؤْنَ اَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى اَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دَمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ الْمَقْمَقُ“^(۱)(۲)۔

بیشک قیامت کے روز سب سے ہلکے عذاب میں بنتا شخص وہ ہوگا جس کے پیروں کے تلوے تلا آگ کے دوانگارے ہوں گے جن

(۱) ”مرجل“ تانبے کی ہاذڑی کو کھا جاتا ہے، اور ”مقمقم“ عظر فروشوں کا ایک برتن ہے، اور کھا گیا ہے کہ یہ تانبہ سے بنا ہو انگ منہ کا ایک برتن ہے جس میں پانی کو جوش دیا جاتا ہے، نیز عام طور پر ہر قسم کے برتن کو بھی ”مرجل“ کھا جاتا ہے جس میں پانی گرم کیا جائے، خواہ کسی بھی دھات کا ہو، دیکھئے: فتح الباری، ۱۱/۳۳۰، ۳۳۱۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱۱/۳۱۷، حدیث (۶۱)، ۶۵۶۲ و صحیح مسلم، ۱/۱۹۶، حدیث (۲۱۲۳)۔

معمولی درجہ کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ عزوجل نے فرمایا: وہ ایک آدمی ہوگا جو جنتیوں کے جنت میں داخل کئے جانے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا: اے رب! کیسے داخل ہوں جب کہ لوگ اپنی جگہیں لے پچکے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ تیرے لئے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کی بادشاہت کے برابر نعمتیں ہوں؟ تو وہ کہے گا: اے پروردگار! میں خوش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تیرے لئے وہ اور اس کے مثل، اور اس کے مثل، اور اس کے مثل نعمتیں ہیں، پانچویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اے رب میں خوش ہو گیا، تو اللہ اس سے فرمائے گا: تیرے لئے یہ اور اس کی دس گناہ نعمتیں ہیں نیز تیرے لئے وہ سب کچھ ہے جو تیری خواہش ہو اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ملے، تو وہ کہے گا: اے رب! میں خوش ہو گیا... حدیث لمبی ہے۔

تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی گرمی کا ستروال حصہ ہے، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ کی قسم یہی کافی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا: جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر انہتر گناہ بڑھایا گیا ہے اور ہر گناہ کی گرمی جہنم کی آگ کی گرمی کے مثل ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اشتكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبَّ أَكْلِ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذْنِ لَهَا بِنَفْسِيْنِ: نَفْسٌ فِي الشَّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيفِ، فَهُوَ أَشَدُ مَاتَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَاتَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ“ (۱)۔

جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا: اے پور دگار! میرے

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۳۲۶۰) و صحیح مسلم، ۱/۳۳۱، حدیث (۲۱۷) ”زمهریر“ سخت ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔

سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح تانبے کی (تگ منہ کی) ہانڈی کھلوتی ہے۔
اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے:
”ما يری أَنْ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهُونُهُمْ عَذَابًا“ (۱)۔

اسے احساس ہوگا کہ اس سے سخت عذاب سے دوچار کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے معمولی عذاب سے دوچار ہوگا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

”نَارَ كَمْ هَذِهِ التِّيْ يُوقَدُ أَبْنَادُهُ سَبْعِينَ جَزْءًا مِنْ حَرْ جَهَنَّمَ، قَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّهَا لِكَافِيَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِنَّهَا فَضَلَّتْ عَلَيْهَا بِتَسْعَةِ وَسْتِينَ جَزْءًا كَلِّهَا مِثْلَ حَرْهَا“ (۲)۔

(۱) صحیح مسلم، ۱/۱۹۶، حدیث (۲۱۳)۔
(۲) صحیح مسلم، ۲/۲۸۲، حدیث (۲۸۲۳)۔

النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته (١)، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته (٢)،“ (٣)۔

ان میں سے کسی کو جہنم بختنے تک پکڑے گی اور کسی کو گھٹنے تک پکڑے گی اور کسی کو اس کی کمرتک پکڑے گی، اور کسی کو اس کے گلے تک پکڑے گی۔

یہ حدیث عذاب میں جہنمیوں کے مختلف اور کم و بیش ہونے کی واضح دلیل ہے، ہم جہنم اور اس سے قریب کرنے والے ہر قول فعل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں (٤)۔

(١) ”حجزة“ (کرمیں) ازار اور شوار وغیرہ باندھنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔

(٢) ”ترقوۃ“ اس بڑی کوکتے ہیں جو سینے کے بالائی حصہ اور کندھے کے درمیان ہوتی ہے۔

(٣) صحیح مسلم، ٢٨٥، ٢٨٥/٢، حدیث (٢٨٣٥)۔

(٤) صحیح مسلم بشرح ابی، ٩/٢٨٧۔

بعض حصہ نے بعض کو کھالیا، تو اللہ نے اسے دوساری سانس کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں، چنانچہ جو تم سخت گرمی پاتے ہو اور جو سخت سردی پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔

شقین رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يؤتني بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يحرونها“ (١)۔

اس (قیامت کے) دن جہنم کو لا یا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔

سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

”منهم من تأخذه النار إلى كعبية، ومنهم من تأخذه

(١) صحیح مسلم، ٢٨٣، حدیث (٢٨٣٢)۔

جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے لئکن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿عَالِيهِمْ ثِيَابٌ سَنْدَسٌ خَضْرٌ وَإِسْتِبْرَقٌ وَحَلْوَا أَسَاوِرٌ مِّنْ فَضْةٍ وَسَقَاهُمْ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (۱)۔

ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے لئکن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلاۓ گا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

(۱) سورۃ الانسان (دہر): ۲۱۔

چودھوال مبحث:

جنتیوں اور جہنمیوں کا لباس:

۱- جنتیوں کا لباس:

اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مِنْ أَحْسَنِ عَمَلٍ، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَبِلَبْسِهِنَّ ثِيَابًا خَضْرًا مِنْ سَنْدَسٍ وَإِسْتِبْرَقٍ مُتَكَبِّنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نَعْمَلُ الثَّوَابَ وَحَسِنَتْ مَرْتَفَقَا﴾ (۱)۔

یقیناً جو لوگ ایمان لا یں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لئے ہیئتگی والی

(۱) سورۃ الکھف: ۳۰، ۳۱۔

اور کہا گیا ہے کہ ”استبرق“ موٹے ریشمی لباس، یاسونے سے تیار کردہ لباس، یاد بیانج کی مانند ریشمی استر کو کہتے ہیں (۱)۔

دیباج: عمدہ قسم کے ریشم سے بنائے گئے کپڑوں کو کہا جاتا ہے (۲)۔

سندس: ایک قسم کے باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں (۳)۔

درة: بڑے موٹی کو کہتے ہیں (۴)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل (محمد) ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

”تَبْلُغُ الْحَلِيَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِ حِيثُ يَبْلُغُ الْوَضْوَءُ“ (۵)۔

- (۱) القاموس المحيط، ج ۱۱۲۰۔
- (۲) النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاشیر، ۹۶/۲۔
- (۳) القاموس المحيط، ج ۱۰۷۔
- (۴) ”الدرة“ (dal کے پیش کے ساتھ) بڑے موٹی کو کہتے ہیں اور ”الدرة“ (dal کے زیر کے ساتھ) کوڑے کو کہتے ہیں جس سے ضرب لگائی جاتی ہے، اور ”ڈری“ کے معنی روشن کے ہیں، کہا جاتا ہے ”ڈری السیف“ یعنی تواریکی چمک۔ القاموس المحيط، ج ۱۵۰۰ و آنحضرت ابو سیط، ۱/۲۲۹۔
- (۵) صحیح مسلم، ۱/۲۹، حدیث (۲۵۰)۔

من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير (۱)۔

بیشک اللہ تعالیٰ مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنانے جائیں گے اور سچے موٹی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔

مزید ارشاد باری ہے:

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرِ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤلُؤاً وَلِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (۲)۔

وہ باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موٹی پہنانے جاویں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔

استبرق: دیز ریشم اور عمدہ ترین ریشم کو کہتے ہیں (۳)۔

(۱) سورۃ الحج: ۲۳۔

(۲) سورۃ فاطر: ۳۳۔

(۳) النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاشیر، ۱/۲۷۔

کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، پھر ان کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے کے رنگ کی طرح ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے لئے حور عین میں سے دو بیویاں ہوں گی، ہر بیوی ستر جوڑے زیب تن کئے ہو گی، اس کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت اور کپڑوں کے پیچھے سے اسی طرح نظر آئے گا جس طرح سفید شیشی میں سرخ شراب نظر آتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور ہدیہ ریشم لایا گیا تو صحابہ کرام اس کی نرمی اور ملائمت پر تعجب کرنے لگے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تعجبون من هذه؟ لمن ا dilation سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا“ (۱)۔

تم لوگ اس معمولی ریشم کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے کہیں بہتر ہے۔

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۳۲۲۹) و صحیح مسلم (۲/۱۹۱۶، ۲۳۶۸)۔

مومن کی زینت (زیور) وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة القدر، ثم الذين يلونهم على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة سبعون حلقة يرى مخ سوقها من وراء لحومها وحللها، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء“ (۱)۔

سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہو گی وہ چودھویں شب

(۱) اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام ابن القیم اپنی کتاب حادی الارواح (ص ۲۱۵) میں فرماتے ہیں: یہ سنده صحیح کی شرط پر ہے، امام شیعی مجتبی الزوائد (۱۰/۳۱) میں فرماتے ہیں: ابن مسعود رضی اللہ کی سنده صحیح ہے۔

۲۔ جہنمیوں کا لباس:

اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى نے اور اسی طرح رسول اللّٰہ ﷺ نے جہنمیوں - اللّٰہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے - کا لباس بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے:
اللّٰہُ عَزُوجَلُ کا ارشاد ہے:

﴿هَذٰلِ خَصْمَانٍ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا
قطَعُتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کپڑے
کے طور پر جہنم کی آگ کے ٹکڑے دیئے جائیں گے۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”وہ تانبے کا لباس ہو گا جو تپائے
جانے پر سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔

﴿يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾

حیم: حد درجہ گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ پکھلا یا ہوا تانبہ ہو گا جوان کے
پیٹ کی چربی اور آنتوں کو پکھلا دے گا، اور ان کی کھالیں پکھل کر گرنے

(۱) سورۃ ابراہیم: ۳۹، ۵۰۔

(۱) سورۃ الحج: ۲۰، ۱۹۔

لگیں گی، (۱)۔

بالنجوم والنياحة، وقال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من
جرب“ (۱)۔

میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے: حسب اور خامد ان شرافت پر فخر، نسب میں طعنہ زدنی، ستاروں سے بارش کی طلب اور نوحہ خوانی، نیز آپ نے فرمایا: نوحہ کرنے والی اگر توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر پھٹکے تابنے کی تیص اور خارش کا پوشک ہوگا۔

﴿مَقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ یعنی باہم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ہم شکل و ہم صفت لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہوگا (۲)۔ سرابیلهم: یعنی ان کے کپڑے جنہیں وہ پہنیں گے کرم پھٹکے ہوئے تابنے کے ہوں گے، قطران: اس مادے کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کی طلائی کی جاتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”قطران: پھٹکے ہوئے کرم تابنے کو کہتے ہیں“ (۳)۔

ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتَرَكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ
بِالْأَحْسَابِ، وَالْطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ

(۱) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، ۳/۲۸۲۱۳، ۳۲/۲۸۲۶۵، ۳۲/۲۸۲۱۳ تفسیر البغوي، ۲/۲۷، ۲۷/۳۳۸۔

(۲) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، ۲/۵۲۵۔

(۳) دیکھئے: مصدر سابق، ۲/۵۲۶۔

(۱) صحیح مسلم، ۴۲۲/۲، حدیث (۹۳۳)۔

اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿مَتَكِينٌ عَلَى رُفْرُفٍ خَضْرٍ وَعَقْرِيٍّ حَسَانٍ﴾ (۱)۔

سبز مندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿فِيهَا سَررٌ مَرْفُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةٌ﴾ (۲)۔

اس (جنت) میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ اور آنکھوں کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ اور مچھلی مندوں پر پھیلی پڑی ہوں گی۔

نمารق کے معنی تکیے کے ہیں (۳)۔

(۱) سورۃ الرحمٰن: ۲۷۔

(۲) سورۃ الغاشیہ: ۱۶۵۔

(۳) تفسیر ابن کثیر، ۵۰۷/۲، حادی الارواح لابن القیم، ص ۲۲۰۔

پندرہواں بحث:

جنتیوں اور جہنمیوں کے بستر:

۱- جنتیوں - اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے - کے بستر:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿مَتَكِينٌ عَلَى فَرْشٍ بَطَانَهَا مِنْ إِسْتِبْرَقٍ وَجَنِيِّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ (۱)۔

جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استردیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب قریب ہوں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَفَرْشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ الرحمٰن: ۵۳۔

(۲) سورۃ الواقعہ: ۳۲۔

جہنم مهاد ومن فوقهم غواش و کذالک نجزی
الظالمین ﴿۱﴾۔

جن لوگوں نے ہماری آئیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ جنت میں بھی نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزادیتے ہیں۔ ان کے لئے جہنم کی آگ کا پچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم طالموں کو ایسی ہی سزادیتے ہیں۔
نیز اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلٌ ذَلِكَ يَخْوُفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادُهُ يَا عِبَادَ فَاتَّقُوهُنَّ﴾ ﴿۲﴾۔
ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے

(۱) سورۃ الاعراف: ۳۱، ۳۰۔

(۲) سورۃ الزمر: ۱۶۔

عقری: ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی فرش اور بستر کے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو بھی بستر ہوں گے عقری (عمدہ) ہوں گے، اور عقری ہر اس چیز کا نام یا وصف ہے جس کی خوبی میں مبالغہ کرنا مقصود ہو (۱)۔
زرابی: گدے، غایپ اور بستر کے کہتے ہیں۔

رفف: کہا گیا ہے کہ اس کے معنی تکیے کے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بیڈ شیٹ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی بسترے کے بھارکے ہیں (۲)۔

۲۔ جہنیوں کے اوڑھنے اور پچھونے:
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَأَرْشَادٍ هُنَّ

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْجُوَ الْجَمَلُ فِي سَمَاءِ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نُجزِي الْمُجْرِمِينَ، لَهُمْ مِنْ

(۱) حادی الارواح لابن القیم، ص ۲۲۱، تفسیر ابن کثیر / ۲، ۲۸۱۔

(۲) حادی الارواح لابن القیم، ص ۲۲۰، تفسیر ابن کثیر / ۲، ۲۸۱۔

سوہوال مبحث: جنتیوں اور جہنمیوں کا کھانا:

۱- جنتیوں کا کھانا:
اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:
 ﴿ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحررون، يطاف
عيم بصالح من ذهب وأكواب وفيها ما تستهيه
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك
الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها
فاكهة كثيرة منها تأكلون﴾ (۱)۔

تم اور تمہاری بیویاں ہشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے
چاروں طرف سے سونے کی رکابیوں اور سونے کے گلاسون کا دور

(۱) سورۃ الزخرف: ۷۰-۷۳۔

سے بھی سائبان ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں کو ڈر رہا ہے، اے میرے بندو! الہذا مجھ سے ڈرتے رہو۔
 ﴿لهم من جهنم مهاد﴾ یعنی جہنم کی آگ کے پچھونے (۱)۔
 ﴿ومن فوقهم غواش﴾ یعنی آگ ہی کے اوڑھنے (۲)۔
 ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل﴾ (یعنی
عظیم باطل کی طرح عذاب کے ٹکڑے، آگ کے طبق، دھواں، شعلے اور ان
کے اوپر اور نیچے سے گرم آگ ہوگی) (۳)۔

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۲/۲۱۵، تفسیر البغوي، ۲/۱۶۰۔

(۲) دیکھئے: سابقہ دونوں مصادر، ۲/۲۱۵، ۱۶۰/۲۔

(۳) تفسیر البغوي، ۲/۲۷، ایسرال تفاسیر للجزائری، ۲/۳۷، تفسیر الکریم الرحمن السعیدی، ۶/۳۵۷۔

یقیناً پر ہیز گار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔ جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچالیا ہے۔ تم مزرے سے کھاتے پیتے رہوان اعمال کے بد لے جو تم کرتے تھے۔ برا بر بچھے ہوئے شاندار تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی (حوروں) سے کر دیئے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی بیرونی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا گروہی ہے۔ ہم ان کے لئے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے۔ (خوش طبیعی کے ساتھ) ایک دوسرے سے جام کی چھیننا چھپی کریں گے، جس شراب کے سرور میں تو بے ہودہ گوئی ہو گئی گناہ۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَفَاكِهَةٌ مَّا مِنْ يَخِرُونَ، وَلَحْمٌ طَيْرٌ

چلا یا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہو گا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بد لے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لئے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔
نیز ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ، فَاكَهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ، كَلُوا وَاشْرُبُوا هَنِئُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، مَتَكَبِّئُونَ عَلَى سُرِّ مَصْفُوفَةٍ وَزَوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقِّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُورَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾ (۱)۔

یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔ بلند و بالا جنت میں۔ جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) مزے سے کھاؤ اور پیو، اپنے ان اعمال کے بد لے جو تم نے گزشتہ زمانہ میں کئے۔

۲۔ جنہیوں کا کھانا:

(الف) قوم کا کھانا:

الذرع و جل کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ إِنْكُمْ أَيَّهَا الظَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ، لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ، فَمَا لُؤْلُؤُنَ مِنْهَا الْبَطُونُ، فَشَارَبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ، فَشَارَبُونَ شَرْبَ الْهَمِيمِ، هَذَا نَزْلَهُمْ يَوْمُ الدِّين﴾ (۱)۔

پھر تم اے گمراہو جھلانے والو۔ یقیناً تھوڑا کا درخت کھانے والے ہو۔ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ پھر اس پر گرم کھوتا پانی

(۱) سورۃ الواقعہ: ۵۶ تا ۵۷۔

مما یشتهون﴿ (۱)۔

اور ایسے میوے لئے ہوئے جوان کی پسند کے ہوں۔ اور پرندوں کے گوشت جوانہیں مرغوب ہوں۔
مزید ارشاد ہے:

﴿يُوْمَئِذْ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةً، فَأَمَّا مِنْ أُوْتَى كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوْمَ اقْرَأُوا كَتَابِيَهُ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مَلَاقِ حَسَابِيَهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَهُ، فِي جَنَّةِ عَالِيَهُ، قَطْوَفَهَا دَانِيَهُ، كَلَوَا وَاشْرَبُوا هَنِيَّهَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَهُ﴾ (۲)۔

اس دن تم سب سامنے پیش کئے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو کامل

(۱) سورۃ الواقعہ: ۲۰، ۲۱۔

(۲) سورۃ الحلقہ: ۱۸، ۲۹۔

طعام الأثيم: يعني بدكار گنہ گار کا کھانا (۱)۔

﴿كَالْمُهَلٍ يَغْلِي فِي الْبَطْوَن﴾ يعني تیل کے تلچھٹ کی طرح جو سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا (۲)۔

(ب) **غسلین کا کھانا:**

اللَّذِعْ وَ جَلٌ كَا رَشَادٍ هُنَّا:

﴿فَلَيْسَ لِهِ الْيَوْمَ هُنَّا حَمِيمٌ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ (۳)۔

پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔ اور نہ سوائے غسلین کے اس کی کوئی غذا ہے۔ جسے گندہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔

غسلین: جہنمیوں کے جسموں کے دھونوں (خون، پیپ اور بدبودار پانی وغیرہ) کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ جہنمیوں کا پیپ ہے گویا کہ ان

(۱) تفسیر البغوی، ۱۳۶/۲، ۱۵۶۔

(۲) مصدر سابق: ۱۵۷/۲، تفسیر ابن کثیر، ۱۳۶/۲۔

(۳) سورة الحاقة: ۳۵/۲۷۔

پینے والے ہو۔ پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ یہی قیامت کے دن ان کی مہماں ہے۔

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنْ شَجَرَةُ الرِّزْقِ، طَعَامُ الْأَثِيمِ، كَالْمُهَلٍ يَغْلِي فِي الْبَطْوَنِ، كَغَلِيِ الْحَمِيمِ﴾ (۱)۔

بیشکِ زقوم (تھوڑا) کا درخت۔ گناہ گار کا کھانا ہے۔ جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھوتا رہتا ہے۔ مثل تیز گرم پانی کے۔

زقوم: یہ ایک گھناؤ نے مزے کا بدبودار درخت ہے جس کے کھانے پر جہنمیوں کو مجبور کیا جائے گا، چنانچہ وہ اسے انتہائی کراہت سے نگلیں گے، اسی لفظ سے اہل عرب کہتے ہیں: "... تزقم الطعام" یعنی (فلان) نے انتہائی پریشانی، ناپسندیدگی اور کراہت سے کھانا حلق سے نیچے اتارا (۲)۔

(۱) سورۃ الدخان: ۲۳/۲۶۔

(۲) تفسیر البغوی، ۱۵۸/۲۔

(د) طعام الضريح (کائنے دار درخت کا کھانا):

ارشاد باری ہے:

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، لَا يَسْمَنُ وَلَا يَغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ (۱)۔

ان کے لئے سوائے کائنے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔
جونہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔

ضرير: کہا گیا ہے کہ ضرير ایک کائنے دار پودا ہے جسے قریش والے
”شرق“ کہتے تھے، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اسے ضرير کہا جاتا ہے،
یہ انتہائی گندہ، بد بودا اور گھناؤ کھانا ہوگا (۲)۔

کے زخموں کا دھونوں ہو، نیز کہا گیا ہے کہ (غسلین) جہنمیوں کے گوشت
سے بننے والے پانی اور خون کو کہتے ہیں (۱)۔

(ج) طعام ذات غصۃ (اٹکنے والا کھانا):

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ لَدِينَا أَنْكَالًاٰ وَجَحِيمًا، وَطَعَاماً ذَا غَصِّةٍ وَعَذَابًاٰ أَلِيمًا﴾ (۲)۔

یقیناً ہمارے یہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔ اور
حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دروناک عذاب ہے۔

ذات غصۃ (اٹکنے والا): یعنی وہ کھانا حلق میں جا کر اس طرح پھنس
جائے گا کہ نہ اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا، اور کہا گیا ہے کہ یہ زقوم (بد بودا
درخت) اور ضرير (خاردار درخت) ہوگا (۳)۔

(۱) غریب القرآن للاصفہانی، ص ۳۶۱، تفسیر البغوی، ۳۹۰/۲، تفسیر ابن کثیر، ۳۱۷/۲۔

(۲) سورۃ المزمل، ۱۲، ۱۳۔

(۳) تفسیر ابن کثیر، ۲۳۸/۲، تفسیر البغوی، ۳۰۰/۲۔

کامفہوم یہ ہے کہ جنتی ایک ایسے آنحضرتے کا جام نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔

اور یہ چیز معلوم ہے کہ کافور میں نہایت پاکیزہ خوشبو اور ٹھنڈک ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس پر جنت کی لذت دو بالا ہوگی (۱)۔

اور کہا گیا ہے کہ اس میں کافور کی آمیزش اور مشک کی مہر ہوگی (۲)۔

﴿يَفْجُرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اپنے محلوں اور نشست گاہوں میں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے اور حسب منشا اس میں تصرف کریں گے (۳)۔

نیزار شاد ہے:

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَآئِيَةً مِنْ فَضْةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، قَوَارِيرًا مِنْ فَضْةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا، وَيُسْقَوْنَ

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۲/۲۵۵۔

(۲) تفسیر البغوي، ۲/۲۷۲۔

(۳) تفسیر ابن کثیر، ۲/۲۵۵، تفسیر البغوي، ۲/۲۸۔

ستر ہوال مبحث:

جنتیوں اور جہنمیوں کا پینا:

۱- جنتیوں کا پینا:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مَزَاجُهَا كَافَرًا، عِينًا يُشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَفْجُرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ (۱)۔

بیشک نیک لوگ وہ جام پینیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔ جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پینیں گے، اسے جہاں چاہیں گے موڑ لیں گے۔

فرمان باری: ﴿يُشَرِّبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا﴾

(۱) سورۃ الانسان (دہر): ۵، ۶۔

جائیں گے (۱)۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿يَسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ، خَتَّامَهُ مَسْكٌ وَفِي
ذَلِكَ فَلِيَتَنافَسَ الْمُتَنافِسُونَ، وَمَزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ،
عِيْنَا يَشْرُبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ﴾ (۲)۔

یوگ سر بھر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ جس پر مشک کی مہر
ہو گئی سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہئے۔ اور
اس کی آمیزش تسنیم کی ہو گی۔ یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ
ہی پینے گے۔

الرجیق: یعنی وہ جنت کی ایک شراب نوش کریں گے، رجیق: ایک جنتی
شراب کا نام ہے۔ ”ختامہ مسک“ کے معنی یہ ہیں کہ اس میں مشک کی
آمیزش ہو گی۔ ”ختامہ“ کا معنی یہ ہے کہ اس شراب کا آخری مزہ اور

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۲/۲۵۷، تفسیر البغوي، ۲/۳۳۲۔

(۲) سورۃ المطففين: ۲۸ تا ۲۵۔

فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلاً، عیناً فیها تسمی
سلسیلاً (۱)۔

اور ان پر چاندی کے برتاؤں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو
شیشے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جن کو (ساقی نے)
اندازہ سے ناپ رکھا ہو گا۔ انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے
جن کی آمیزش زنجیل کی ہو گی۔ جنت کی ایک نہر سے جس کا نام
سلسیل ہے۔

﴿وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأساً﴾ یعنی ان پیالوں میں وہ زنجیل (سوٹھ،
خشک ادرک) کی آمیزش والی شراب نوش کریں گے، چنانچہ بھی ان کی
شراب میں کافور کی آمیزش ہو گی جو ٹھنڈا ہو گا اور بھی زنجیل (ادرک) کی
آمیزش ہو گی جو کہ گرم ہو گا۔

﴿عِيْنَا يَشْرُبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ﴾ سلسیل جنت کے ایک چشمہ کا نام
ہے جو ان کے تابع ہو گا وہ اسے حسب منشا جہاں چاہیں گے لے

(۱) سورۃ الانسان (دہر): ۱۵۔

آسن و آنہار من لبن لم یتغیر طعمه و آنہار من خمر
لذة للشاربین و آنہار من عسل مصفی ولهم فیها من
کل الشمرات و مغفرة من ربهم ﴿۱﴾۔

اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے
کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی
نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں
پینے والوں کے لئے بڑی لذت ہے اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت
صاف ہیں اور ان کے لئے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے
رب کی طرف سے مغفرت ہے۔

﴿ماء غير آسن﴾ یعنی ایسا پانی جس کی لذت میں کوئی تبدیلی نہیں
ہوئی ہوگی ﴿۲﴾۔

اور نہر (حوض) کوثر جو نبی کریم ﷺ کو عطا کی جائے گی (اس سلسلہ

انجام مشک ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ ”ختام“ چاندی کے مثل ایک سفید
شراب ہوگی جسے جنتی سب سے اخیر میں نوش کریں گے ﴿۱﴾۔

﴿ومزاجه من تسنیم﴾ کا مفہوم یہ ہے کہ اس ”رِحْقَ“ میں
”تسنیم“ کی آمیزش ہوگی یعنی ایک ایسی شراب کی آمیزش ہوگی جسے
”تسنیم“ کہا جاتا ہے، جو کہ جنتیوں میں سب سے عمدہ، افضل اور اعلیٰ قسم کی
شراب ہوگی، اسی لئے اللہ عزوجل نے فرمایا ﴿عیناً يشرب بها
المقربون﴾ یعنی ”مقربین“، (سب سے بلند مقام جنتی) خالص تسنیم نوش
کریں گے، جبکہ ”اصحاب الیمین“ (دوسرے بلند مرتبہ کے جنتیوں) کی
شراب میں تسنیم کی محض آمیزش ہوگی ﴿۲﴾۔

جنت کی نہریں:

اللّٰهُ سَجَّانَهُ وَتَعَالٰی كَا ارشاد ہے:

﴿مثُل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير

(۱) تفسیر ابن کثیر / ۲، ۳۸۷، ۳۸۸، تفسیر البغوی / ۲، ۳۶۱۔

(۲) تفسیر ابن کثیر / ۲، ۳۸۸، تفسیر البغوی / ۲، ۳۶۲۔

کے برابر ہوگی (۱)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو آسمان کی معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا:

”أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافِتَاهُ قَبَابُ الْكَوْثُرِ مَجْوُفٌ فَقُلْتُ:
مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثُرُ“ (۲)

میں ایک نہر کے پاس آیا جس کے دونوں کنارے جوف دار موٹی کے قبے تھے، تو میں نے کہا: اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ (حوض) کوثر ہے۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

”بَيْنَمَا أَنَا أَسْبِرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافِتَاهُ قَبَابُ الدَّرِّ
الْمَجْوُفِ، قَلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثُرُ
الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، إِذَا طَينَهُ أَوْ طَيْبَهُ مَسَكَ

(۱) دیکھئے: شرح العقیدۃ الواسطیۃ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ، از مولف کتاب ہذا، ج ۶۲، ص ۶۲۔

(۲) صحیح بخاری، حدیث (۳۹۶۲)۔

میں) عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”حَوْضٌ مِسِيرٌ شَهْرٌ، مَأْوَهُ أَبِيضٌ مِنَ الْلَّبَنِ، وَرِيحَهُ
أَطِيبٌ مِنَ الْمَسَكِ، وَكَيْزَانٌ كَنْجُومُ السَّمَاءِ، فَمَنْ
شَرَبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا“ (۱)۔

میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر (بڑا) ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی غوشہ موٹک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اس کے آنکھوں پر (پیالے) آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، جو اس میں سے (ایک مرتبہ) نوش کر لے گا اسے پھر بکھی پیاس نہ لگے گی۔

اس (حوض نبوی) کی لمبائی و چوڑائی دونوں برابر ہوگی، یعنی اس کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت اور اسی طرح اس کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ج ۱۱، حدیث (۲۵۷۹)، صحیح مسلم، ج ۲، حدیث

(۲۲۹۲)۔

نیز آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”لیردن علی انس من اصحابی الحوض۔“

میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ میرے پاس میرے حوض پر آئیں گے۔

اور ایک روایت میں ہے:

”أَقْوَامٌ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرُفُونِي، ثُمَّ يَحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَنَا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سَاحِقًا سَاحِقًا لِمَنْ غَيْرُ بَعْدِي“ (۱)۔

میرے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا: یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا: آپ ﷺ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے

(۱) صحیح بخاری، کتاب الرقاۃ، باب فی الحوض، ۷/۲۶۲، ۲۶۳، حدیث (۶۵۸۳)، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض النبی ﷺ و صفاتہ، ۹۲/۱۷۶۰ تا ۱۸۰۲۔

اذفر“ (۱)۔

میں جنت میں سیر کر رہا تھا کہ یہاں ایک ایک نہر کے پاس آیا جس کے دونوں کنارے جوف دار موٹی کے قبے تھے، تو میں نے کہا: اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ وہ حوض کوثر جسے آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یا اس کی خوبیوں پر ٹھا ہوا (تیز خوبیوں والا) مشک تھا۔ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوَافِرَ، فَصُلْ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ، إِنْ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (۲)۔

یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۶۵۸۱)۔

(۲) سورۃ الکوثر: ۳۔

ارشاد باری ہے:

﴿يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رَءُ وَسْهَمِ الْحَمِيمِ، يَصْهُرُ بِهِ مَا فِي
بَطْوَنِهِمْ وَالْجَلْوَد﴾ (۱)۔

ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جائیں گی۔

(ب) صدید: (جهنمیوں کا خون اور پیپ)
اللَّعْزُ وَجْلٌ كَا ارشادٍ هے:

﴿وَاسْتَفْتُحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ، مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ
وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْيِغُهُ وَيَأْتِيهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ
غَلِيظٌ﴾ (۲)۔

اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامرد

بعد کوں کوں سی بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، تو میں کہوں گا: ایسے لوگوں کو مجھ سے دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر لی تھیں۔

عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: ”سحقاً“ کے معنی دوری کے ہیں۔
- جہنمیوں کا پینا: (اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے)

(الف) الحمیم:
اللَّعْزُ وَجْلٌ كَا ارشادٍ هے:

﴿وَسَقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقُطِعَ أَمْعَاءُ هُمْ﴾ (۱)۔
انہیں (جهنمیوں کو) انتہائی گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنسیں کٹکڑے کر دے گا۔

حمیم: یعنی ناقابل برداشت سخت گرم پانی ہوگا، جو ان کے پیٹ کی آنسیوں اور اس میں جو کچھ ہوگا تمام چیزوں کو کٹکڑے کر دے گا (۲)۔

(۱) سورۃ الحمیم: ۱۵۔

(۲) تفسیر ابن کثیر، ۲/۲۷، زیر نظر کتاب کاص: (۱۳۹) ملاحظہ کریں۔

ہر شے آور چیز حرام ہے، نشہ آور چیز نوش کرنے والے پر اللہ عزوجل کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے ”طینۃ الخبال“ پائے گا، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ”طینۃ الخبال“ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ (دھوون)۔

(ج) تلچھٹ کی طرح پانی:

مهل: تیل کے تلچھٹ کو کہتے ہیں (۱)، یہ گاڑھا، سیاہ، گرم اور بد بودار پانی ہو گا جب کافر اسے پینا چاہے گا اور اسے اپنے منہ سے قریب لائے گا تو اس سے اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اور اس کی کھال اسی پانی میں گرجائے گی (۲)۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحاطَ بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يَغْاثُوا بِمَا كَالْمَهْلِ يَشْوِي الْوِجْوَهَ بِئْسَ

(۱) مفردات غریب القرآن بلا صفحہ انی، ص ۳۶۷۔

(۲) تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۸۲۱۔

ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ جسے بمثکل گھونٹ گھونٹ پائے گا پھر بھی اسے لگے سے اتارنہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی تخت عذاب ہے۔ صدید: کہا گیا ہے کہ کافروں کے جسم اور پیٹ سے نکل کر بہنے والے خون اور پیپ کو صدید کہا جاتا ہے (۱)۔

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کل مسکر حرام، إن علی الله عز وجل عهداً لمن شرب المسکر أَن يسقيه من طینۃ الخبال“ قالوا: يارسول الله ! وما طینۃ الخبال؟ قال: ”عرق أهل النار او عصارة أهل النار“ (۲)۔

(۱) تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۵۳۷، تفیر المغوی، ج ۳، ص ۲۹۔

(۲) صحیح مسلم، حدیث (۲۰۰۲) میزاس موضوع کی دیگر احادیث صحیح سنن ترمذی (۱۶۹/۲) اور صحیح سنن ابو داود (۴۰۷) میں ملاحظہ فرمائیں۔

بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ اور بے باکی سے ہماری آئیوں کی تنذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ اب تم (اپنے کئے کا) مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔

غساق: ناقابل برداشت سرد چیز کو کہتے ہیں، چنانچہ جس طرح جہنم اپنی گرمی سے جلا دے گی اسی طرح ”غساق“ کی سردی سے بھی جل جائیں گے، یہ زمہریہ (انہائی سرد چیز) ہو گی، یعنی جہنیوں کے خون و پیپ، پسینہ، زخم اور آنسو کا جمع ہونے والا سردار اور بد بودار مواد ہو گا (۱)۔

(ھ) عین آئیہ (کھولتے چشمہ کا پانی):

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ
تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ آئِيَةٌ﴾ (۲)۔

(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲/۳۶۵، ۳/۳۶۵، ۲/۳۶۸، ۲/۲۷، ۲/۲۳۸۔

(۲) سورۃ الغاشیۃ: ۲۵۔

الشراب و ساءت مرتفقاً (۱)۔

ہم نے ظالموں کے لئے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتمیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریدار سی چاہیں گے تو ان کی فریداری اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہو گا جو چہرے کو جھلسا دے گا بڑا ہی براپانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ (دوزخ) ہے۔

(د) غساق (انہائی سرد چیز):

اللَّهُسْجَانَةُ وَتَعَالَى كَا ارشادٌ هُنَّا:

﴿لَا يَذِوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا،
جَزَاءٌ وَفَاقًا، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، وَكَذَبُوا
بِآيَاتِنَا كَذَابًا، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، فَذَوَقُوا فَلْنَ
نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ (۲)۔

کبھی خنکی کا مزہ لیں گے نہ پانی کا۔ سوائے گرم پانی اور شدید سرد

(۱) سورۃ الکھف: ۲۹۔

(۲) سورۃ النبأ: ۲۵ تا ۳۰۔

اس دن بہت سے چھرے ذلیل ہوں گے۔ اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ دیکھتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔

آنیت: کے معنی حد درجہ گرم اور جوش مارنے والے کے ہیں (۱)۔
نیز ارشاد ہے:

﴿يَطْوِفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن﴾ (۲)۔

اس (جحیم) کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔

اہل عرب جب کوئی چیز اس حد تک گرم ہو جاتی تھی کہ کسی چیز کے اس سے زیادہ گرم ہونے کا تصور ہی نہ ہوتا سے "آن حرہ" کہتے تھے، یعنی انتہائی گرم ہو گیا (۳)۔

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۵۰۳/۲، تفسیر البغوي، ۲/۲۷۸۔

(۲) سورة الزمر: ۳۳۔

(۳) لخویف من النار لابن رجب الحنبلي، ص ۱۵۰۔

اٹھارہواں مبحث:
جنتوں کے محل اور جنپیوں کی رہائش گاہیں:

۱- جنپیوں کے محل، خیے اور بالاخانے:

(الف) بالاخانے، محلات اور پاکیزہ رہائش گاہیں:

اللّٰهُ تَبَرَّكَ وَتَعَالٰى كا ارشاد ہے:

﴿لَكُنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رِبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرُفٌ مِّنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ وَعِدَ اللَّهِ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ﴾ (۱)۔

ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بالاخانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالاخانے ہیں، (اور) ان کے نیچے نہریں بہرہی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

(۱) سورۃ الزمر: ۲۰۔

جنت میں ایسے محل ہوں گے جن کا بیرونی حصہ اندروںی حصہ سے اور اندروںی حصہ بیرونی حصہ سے نظر آئے گا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کر کھا ہے، جو کھانا کھلاتے ہیں، گفتگو میں نزی برتتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں، سلام عام کرتے ہیں اور جب لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں تو وہ رات میں نمازیں پڑھتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّعُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لَمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخطَابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتِكَ فَوَلََّتِكَ مُدَبِّرًا“، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعْلَيْكَ أَغَارِيَّاً يَا رَسُولَ اللَّهِ“ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۳۱۸/۲، حدیث (۳۲۲۲)، صحیح مسلم، ۱۸۲۳/۲، حدیث (۳۲۹۵، ۲۳۹۵)، ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کے خلاف بھی مجھے غیرت آئکتی ہے، صحیح مسلم، حدیث (۲۳۹۵)۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل اپنے سعادت مند بندوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ ان کے لئے جنت میں بالا خانے یعنی عالی شان محل ہوں گے، جن کے اوپر بھی محل بنے ہوں گے، جو منزل بر منزل، عالی شان، مزین و آراستہ اور پائیدار بنے ہوں گے“ (۱)۔

حضرت ابوالکاشم علیہ السلام سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يَرِي ظَاهِرَهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنَهَا مِنْ ظَاهِرَهَا، أَعْدَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ“ (۲)۔

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۵۰/۲۔

(۲) مسن احمد، ۳۲۳/۵، وابن حبان (موارد الظلمان میں) حدیث (۲۳۱)، وشعب الایمان للہبیقی، سنن ترمذی برداشت علی رضی اللہ عنہ، حدیث (۲۶۶۰)، مسن احمد برداشت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ۲۳/۲، علامہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی (۳۱۱/۲) اور صحیح الجامع (۲۲۰/۲)، حدیث (۲۱۹) میں حسن قرار دیا ہے۔

تو میں نے پوچھا: یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: قبیلہ
قریش کے ایک شخص کا، تو اے خطاب کے بیٹھ (عمر)! مجھے اس
محل میں داخل ہونے سے صرف یہی چیز مانع ہوئی کہ میں تمہاری
غیرت جانتا تھا، (یہ سن کر) انہوں نے فرمایا: اے اللہ کے رسول!
کیا آپ کے خلاف بھی میں غیرت کر سکتا ہوں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جبر میل علیہ السلام نبی
کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:
”یا رسول اللہ! هذه خدیجۃ قد أتتک معها إناه فیه
إدام او طعام او شراب، فإذا هي أتتک فاقرأ عليها
السلام من ربها ومني، وبشرها ببیت فی الجنۃ من
قصب لا صخب فيه ولا نصب“ (۱)۔
اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ خدیجہ (رضی اللہ عنہا) آپ کی طرف

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۷/۱۳۲، حدیث (۳۸۲۰)، صحیح مسلم، ۲/۱۸۸۷، حدیث
(۲۲۳۲)۔

میں سویا ہوا تھا کہ (اتنے میں) خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں
جنست میں ہوں اور ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی
ہے، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: عمر
بن خطاب (رضی اللہ عنہ) کا، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی اور
میں پلٹ کروالپس ہو گیا (یعنی اس میں داخل نہ ہوا)، (یہ سن کر)
عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا
آپ کے خلاف بھی مجھے غیرت آسکتی ہے؟
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”دخلت الجنۃ فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن
هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، مما يعني أن أدخله يا
ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك“. قال:
وعليک أغمار يا رسول الله“ (۱)۔
میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کا محل ہے،

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱۲/۳۱۵، حدیث (۷۰۲۳)۔

باغات عنایت فرمادے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہتر ہی ہوں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں اور آپ کو بہت سے محل بھی عطا کر دے۔

عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”فِي الْجَنَّةِ خِيمَةٌ مِّنْ لُؤلُؤَةٍ مَجْوَفَةٍ عَرَضَهَا سَتُونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَوْيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ إِلَّا خَرْبَيْنَ، يَطْوُفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ“۔ وَفِي روایة لمسلم: ”إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لِخِيمَةً مِّنْ لُؤلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَجْوَفَةٍ طَوْلُهَا فِي السَّمَاءِ سَتُونَ مِيلًا“ (۱)۔

جنت میں جوف دار موتویوں کا ایک خیمه ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی، اس کے ہر گوشہ میں ایک بیوی ہوگی جسے دوسرا نہ

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۲۶۲/۸، ۳۱۸/۲، ۲۶۲/۳، حدیث (۳۲۲۳)، وصحیح مسلم، ۲۸۲/۲، حدیث (۲۸۳۸)۔

آرہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کوئی سالن یا کھانا یا پینی کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام عرض کریں نیز انہیں جنت میں موتویوں کے ایک ایسے گھر (محل) کی خوشخبری سنادیں جس میں نہ کسی قسم کا شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔

حدیث میں ”من قصب“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ جوف دار موتوی کا بلند و بال محل کے مثل وسیع گھر ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ وہ گھر چھوٹے بڑے موتویوں اور یاقوت سے مرضع کئے گئے ستونوں کا ہوگا (۱)۔

نیز اللہ عز و جل نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا﴾ (۲)۔

اللہ تعالیٰ تو ایسا بارکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے

(۱) فتح الباری، ۷/۱۳۸۔

(۲) سورۃ الفرقان: ۱۰۔

ایک گھر بنائے گا۔

نیز جو شخص اپنی اولاد کی موت کے وقت ”انا اللہ وانا الیہ راجعون“، کہتا ہے اور اللہ کی حمد و شکر تا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے:

”ابنوا العبدی بیتاً فی الجنة وسموه بیت الحمد“ (۱)۔

میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنادو اور اس کا نام ”بیت الحمد“ (تعریف کا گھر) رکھ دو۔

(نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ) ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سننا:

”مامن مسلم یصلی لله کل یوم ثنتی عشرة رکعة
تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بیتاً فی الجنة، أو إلا
بني له بیت فی الجنة“ (۲)۔

(۱) سنن ترمذی برداشت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، علامہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی (۲۹۹/۲۹۹) اور سلسلۃ الاحادیث الصحیح (حدیث/ ۱۳۰۸) میں حسن فرازدیا ہے۔

(۲) صحیح مسلم، ۱/۵۰۳، حدیث (۲۸)۔

دیکھ سکیں گے، مومن ان پر چکر لگائے گا۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے:

بیشک مومن کے لئے جنت میں ایک جوف دار موتی کا ایک خیمه ہو گا جس کی لمبائی آسمان میں ساٹھ میل ہوگی۔

(مذکورہ بالا) دونوں روایتوں میں اس خیمه کی لمبائی اور چوڑائی کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اس کی چوڑائی زمین کی پیمائش میں ساٹھ میل ہوگی اور لمبائی بلندی میں ساٹھ میل ہوگی، چنانچہ اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی (۱)۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”من بنی لله مسجدًا بنی الله له بیتاً فی الجنة“ (۲)۔

جو اللہ کے لئے ایک مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں

(۱) صحیح مسلم بشرح نووی، ۱/۱۷۵۔

(۲) صحیح مسلم (باللفظ)، ۱/۳۷۸، حدیث (۵۳۳) و صحیح بخاری مختصر الباری، ۱/۵۲۲۔

دردناک عذاب سے بچا لے؟۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف سترے گھروں میں جو ہیٹھی کے باغات میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ طویل حدیث کہ جب وہ اللہ کے رسول ﷺ سے جدا ہوں گے تو ان کے دل میں بہت رنج ہو گا اور اسی میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے تعمیر و بناء کے سلسلہ میں بھی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

”لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر(۱)،“

(۱) ”ملاط“ اس گارے کو کہتے ہیں جس سے دیوار جوڑی جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے: ”ان الابل يمالطها الأجرب“ یعنی اونٹ کو خارش کی یماری لگ جاتی ہے، دیکھئے: انحصاری غریب الحدیث، ۳۵۷/۲۔

جو بھی مسلمان ہر روز فرض کے علاوہ بارہ رکعتیں (سنیتیں) اللہ کے لئے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، یا اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیا جاتا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کی تفسیر فرمائی ہے کہ یہ سنن رو اتب (یعنی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنیتیں) ہیں۔

اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تَؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّتَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمُسَاكِنٌ طَيِّبَهُ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں

(۱) سورۃ الصاف: ۱۰-۱۲۔

جو انی ختم ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا: تین لوگوں کی دعائیں رہنیں ہوتیں: الناصف پرور حاکم کی، روزہ دار کی جب وہ افطار کرتا ہے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بد لیوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میری عزت کی قسم! میں تیری ضرور مد کروں گا گرچہ ایک مدت کے بعد۔

۲۔ جہنمیوں کی رہائش گاہیں، ان کی زنجیریں، بیڑیاں اور آلات ضرب:
اللَّذِعْ وَ جُلَّ كَا رِشادَهِ:

﴿بَلْ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لَمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَيْتُهُمْ مِنْ مَكَانَ بَعِيدَ سَمَعُوا لَهَا تَغْيِظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أَلْقَوُا مِنْهَا مَكَانًا صَيْقًا مَقْرَنِينَ دَعَوَا هَنالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ (۱)۔

(۱) سورۃ الفرقان: ۱۱۳۔

وَحَصَبَوْهَا الْلَّؤْلَؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتَرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَأْسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابَهُمْ، وَلَا يَفْنِي شَبَابَهُمْ». ثُمَّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَرْدَدُ دُعَوْتَهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَسِينٌ يَفْطَرُ، وَدُعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارُكُ وَتَعَالَى: وَعَزَّتِي لِأَنْصَرْنِكَ وَلَوْ بَعْدَ حَسِينٍ» (۱)۔

ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہوگا، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گی، اس کی مٹی زعفران ہوگی، جو اس میں داخل ہوگا دادعیش دے گا، محتاجی دور دور بھی نہ پھٹکے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی موت نہ آئے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی ان کی

(۱) سنن ترمذی، ۶۷۲/۲، حدیث (۲۵۲۶)، مندرجہ، ۳۰۵/۲، علامہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی (۳۱۱/۲) میں صحیح قرار دیا ہے۔

﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يَسْجِبُونَ فِي
الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجُرُونَ﴾ (۱)۔

جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی
کھیٹے جائیں گے۔ کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ
میں جلانے جائیں گے۔

﴿أَغْلَالٌ﴾ ”غل“ کی جمع ہے، ”غل“ اس لفہ کو کہتے ہیں جس سے
قیدی کے ہاتھ کو اس کی گردن سے باندھا جاتا ہے (جسے عام لفظ میں طوق
کہا جاتا ہے)، مفہوم یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوگا اور طوق
میں بندھی زنجیریں عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، وہ انہیں
ان کے چہروں کے مل گھیٹ کر کبھی جہنم میں اور کبھی کھولتے ہوئے پانی کی
طرف لے جائیں گے (۲)۔

نیز اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

(۱) سورۃ غافر (مومن): ۲۷، ۲۸۔

(۲) انہاییہ فی غریب الحدیث، لابن الاشیر/۳، تفسیر ابن کثیر/۲، ۸۹۔

بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے
جھلانے والوں کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی
ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ سے بھرنا اور
دھڑنا سنیں گے۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکلیں کس کر
پھینکے جائیں گے تو وہاں اپنے لئے موت ہی موت پکاریں گے۔
(ان سے کہا جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی
موتؤں کو پکارو۔

﴿مَقْرَنِينَ﴾ یعنی ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ کر طوق
پہنادیا گیا ہوگا (۱)۔

﴿دُعَا هَنَالِكَ ثُبُرَا﴾ یعنی وہ تباہی، حسرت، ہلاکت، ناکامی،
خسارہ اور برپادی کو آواز دیں گے (۲)۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) تفسیر ابن کثیر/۳، تفسیر البغوي/۳، ۳۲۲/۳۔

(۲) دیکھئے: سابقہ دونوں مصادر، ۳۱۲/۳، ۳۲۲/۳۔

آگ تیار کر رکھی ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّ لَدِينَا أَنْكَالًاٰ وَ جَهَنَّمًا﴾ (۱)۔

یقیناً ہمارے یہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلکتی ہوئی جہنم ہے۔
انکال: سے مراد وہ بڑی بڑی بیڑیاں ہیں جو ان سے کچھی جدا نہ ہوں گی،
اور کہا گیا ہے کہ یہ لو ہے کے طوق ہوں گے (۲)۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُذَاٰ خَصْمَانٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يَصْبَرُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يَصْهُرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غُمٍّ أَعْيَدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عِذَابَ الْحَرِيق﴾ (۳)۔

(۱) سورۃ المزمل: ۱۲۔

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۳۸، تفسیر البغوي: ۲/۲۱۰۔

(۳) سورۃ الحج: ۱۹/۲۲ تا ۱۹۔

﴿خَذُوهُ فَغَلُوهُ ثُمَّ إِلَّا جَهَنَّمُ صَلُوهُ ثُمَّ فِي سَلْسلَةِ ذِرَاعِهَا سَبْعَونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ فَلَيْسَ لِهِ الْيَوْمَ هُنَّا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ (۱)۔

اسے پکڑ لو پھر اسے طوق پہناؤ۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیائش ستر ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ پیش اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔ اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ اسے گندہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿إِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَالِسَ وَأَغْلَالًاٰ وَسَعِيرًا﴾ (۲)۔

یقیناً ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی

(۱) سورۃ الحلق: ۳۰ تا ۳۷۔

(۲) سورۃ الانسان: ۳۔

انیسوال مبحث:

جنتیوں اور جہنمیوں کے جسموں کی قامت:

ا۔ جنتیوں کے جسموں کی قامت، ان کی عمریں اور طاقت و قوت:
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جنتیوں کے
وصف کے سلسلہ میں فرمایا:

”أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ
صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سَتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ“ (۱)۔
ان کی بیویاں حور عین ہوں گی (وہ سب کے سب) ایک ہی قد و
قامت کے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت میں ساٹھ ہاتھ
لیبے ہوں گے۔

(۱) صحیح بخاری مع شیخ البخاری، ۳۶۲/۲، حدیث (۳۳۳۷) و صحیح مسلم، اس حدیث کی تحریک
گزرچکی ہے۔

یہ دلوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں،
پس کافروں کے لئے تو آگ کے کپڑے پہنوت کر کاٹے جائیں
گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے
گا۔ جس سے انکے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں
گی۔ اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی
وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیئے
جائیں گے اور (کہا جائے گا) جلنے کا عذاب چکھو۔

المقامع: ”مقامع“ کی جمع ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ضرب لگائی
جائی ہے اور کسی چیز کو پست کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے: ”قمعته فانقمع“
میں نے اسے پیٹا اور وہ پست ہو گیا (۱)، یہ دراصل لوہے کے کوڑے ہوں
گے جس کی واحد ”مقمعۃ“، آتی ہے، اہل عرب جب کسی کے سر پر سخت قسم
کی ضرب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ”قمعت رأسه“ میں نے اس کے سر پر
کاری ضرب لگائی (۲)۔

(۱) مفردات غریب القرآن بلا صہافی، ص ۲۸۲۔

(۲) تفسیر الامام بغوي، ۲۸۱/۳، تفسیر ابن کثیر، ۲۱۳/۳۔

مومن کو جنت میں جماع (ہمسٹری) کی اتنی اتنی قوت عطا کی جائے گی، عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا اس کی طاقت ہو گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے سو مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔

۲۔ جہنمیوں کے جسموں کی قامت، ان کے دانت اور ان کی جلدوں کی جسامت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ما بین منکبی الکافر مسيرة ثلاثة أيامٍ للراكب المسريع“ (۱)۔

کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کی تین روز کی مسافت ہو گی۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری ۱/۳۱۵، حدیث (۲۵۵۲)، صحیح مسلم ۲/۲۱۹۰، حدیث (۲۸۵۲)

معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”يدخل أهل الجنة جُرْدًا مُرْدًا، مكحلين، أبناء ثلاثين أو ثلاث و ثلاثين سنة“ (۱)۔

جتنی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسموں پر بال (رونگے) نہ ہوں، چہرے پر ریش بھی نہ ہو گی اور سرگیں آنکھوں والے ہوں گے، ان کی عمر تیس یا تینتیس سال ہو گی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع“
قیل: يا رسول الله! أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة
مائة“ (۲)۔

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۸۲۲۶) علامہ شیخ البانی نے اسے صحیح سنن ترمذی (۳۱۳/۲)، ۳۱۳ میں حسن قرار دیا ہے۔

(۲) سنن ترمذی، حدیث (۲۶۷۲) علامہ شیخ البانی نے اسے صحیح سنن ترمذی (۳۱۳/۲)، ۳۱۳ میں حسن قرار دیا ہے۔

علاوه اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿تَلْفِحُ وَجْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوْن﴾ (۱)۔

ان کے چہروں کو آگ جھلتی رہے گی اور وہ وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔

یعنی ان کے دانت ظاہر ہو گئے ہوں گے جس طرح پکا ہوا یا آگ سے جلا کر بالوں وغیرہ کو ختم کیا گیا سر اینٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کے دانت ظاہر ہو گئے ہوں گے اور ہونٹ سکڑ گئے ہوں گے (۲)۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَوْمَ تُقْلِبُ وَجْهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولُ﴾ (۳)۔

(۱) سورۃ المؤمنون: ۱۰۶۔

(۲) التَّحْوِيفُ مِنَ النَّارِ، لابن رجب، ص: ۱۷۱۔

(۳) سورۃ الاحزاب: ۲۶۔

انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

“صَرِسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مُثْلُ أَحَدٍ، وَغَلَظُ جَلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ” (۱)۔

کافر کے داڑھ کا دانت یا کافر کا (رباعی دانتوں کے بغل والا) دانت جبل احمد کے مثل اور اس کی کھال کی جسامت (موٹائی) تین دن کی مسافت کے برابر ہو گی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سُوفَ نَصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا نَضْجَتْ جَلَوْدُهُمْ بِدُلَنَاهِمْ جَلَوْدًا غَيْرُهَا لِيَذُوقُوا العَذَابَ﴾ (۲)۔

پیش کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آئیوں کا کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے

(۱) صحیح مسلم، ۲۱۸۹، حدیث (۲۸۵۱)۔

(۲) سورۃ النساء: ۵۶۔

يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال“ (۱)۔

غورو و تکبر کرنے والے قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں
باریک سرخ چینیوں کے مثل ہوں گے، انہیں ذلت و خواری ہر جگہ
سے کھیرے ہوئے ہوگی، انہیں ہاں کر جہنم کے ایک قید خانہ میں
لے جایا جائے گا جس کا نام ”بولس“ ہے، آگ انہیں ہر چہار
جانب سے اپنی لپیٹ میں لئے ہوگی، انہیں ”طينة الخبال“ یعنی
جهنمیوں کا نچوڑ (خون پیپ وغیرہ) پلایا جائے گا۔

اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے
(حضرت و افسوس سے) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی
اطاعت کئے ہوتے۔

کافر کی خلقت (جماعت) جہنم میں اس لئے بڑھ جائے گی تاکہ اس کا
عذاب بڑا ہوا اور اس کے درد و تکلیف میں اضافہ ہو، اور اس میں کوئی شک
نہیں کہ عذاب میں جہنمیوں کے درجات مختلف ہوں گے، جیسا کہ دوسری
حدیث کی روشنی میں کتاب و سنت سے معلوم ہوا (۱)، چنانچہ عمرو بن شعیب
سے روایت ہے وہ اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَحْشِرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ النَّرِ فِي صُورِ
الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يَسَاقُونَ إِلَى
سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ، يُسَمَّى بُولْسٌ، تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ،
”

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۲۶۲۳) و مسند احمد، ۲/۲۹، علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح
سنن ترمذی (۳۰۲/۲) اور صحیح الجامع (۲/۳۲۷) میں حسن قرار دیا ہے۔

(۱) فتح الباری شرح صحیح بخاری، ۱۱/۲۲۳۔

اللَّهُ عَزَّ وَجْلَ كَا رِشَادٍ هُنَّ:

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي سُدرٍ
مَخْضُودٍ، وَطَلْحٌ مَنْضُودٌ، وَظَلٌّ مَمْدُودٌ، وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ،
وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ﴾ (۱)۔
اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ وہ بغیر
کانٹوں کی بیریوں میں۔ اور تھہ بہت کیلوں میں۔ اور لمبے لمبے
سایوں میں۔ اور بہت پانیوں میں۔ اور بکثرت پھلوں میں (ہوں
گے)۔ جو نہ ختم ہوں نہ روک لئے جائیں۔

علماء کرام فرماتے ہیں: کہ اس کے سایوں سے مراد اس کا کنارہ اور
گوشہ ہے یعنی جو اس کی شاخوں اور ڈالیوں کو چھپاتا ہے (۲)۔

اللَّهُ تَعَالَى كَا رِشَادٍ هُنَّ:

﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظَلَالٍ وَعِيَّونَ، وَفَوَّا كَهْ مَمَا

(۱) سورۃ الواقعہ: ۳۳ تا ۲۷۔

(۲) صحیح مسلم بشرح نووی، ۷/۶۷۔

بیسوال مجھث:

جنت و جہنم کے درخت اور ان کے سائے:

۱- جنت کے درخت اور اس کے سائے:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمَضْمُرُ
السَّرِيعُ فِي ظَلِّهَا مائَةُ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا“ (۱)۔

بیشک جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار عمده چھریرے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سو برس چلتا رہے گا پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۱۲، ۳۱۲، حدیث (۲۳۵۱، ۲۵۵۳) و صحیح مسلم، ۲۱۷۲/۲، ۲۱۷۲/۳، حدیث (۲۸۲۸، ۲۸۲۷، ۲۸۲۶)۔

ہوئے چشمے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھلاؤ گے؟
ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوں کی دو قسمیں ہوں گی۔

نیز اللہ عزوجل نے دوسری جنت کے بارے میں فرمایا:

﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ﴾ (۱)۔

ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا وَذَلَّتْ قَطْوَفَهَا تَذْلِيلًا﴾ (۲)۔

ان جنتوں کے سامنے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے
(میوے اور) گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ، قَطْوَفَهَا دَانِيَةٌ،
كَلَوَا وَأَشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ

(۱) سورۃ الرحمٰن: ۲۸۔

(۲) سورۃ الانسان (دہر): ۱۳۔

یشتہون ﴿۱﴾۔

میشک پر ہیز گار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشمیں میں۔ اور ان
میوں میں جن کی وہ خواہش کریں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَلَمْنَ خَافِ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ، فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تَكْذِبَانَ، ذُوَاتَ أَفْنَانَ، فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانَ، فِيهِمَا مِنْ
عِينَانَ تَجْرِيَانَ، فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانَ، فِيهِمَا مِنْ
كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانَ﴾ (۲)۔

اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا
و جنتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھلاؤ گے؟
(دونوں جنتیں) بہت سی شاخوں اور ہنپیوں والی ہیں۔ پس تم اپنے
رب کی کس کس نعمت کو جھلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے

(۱) سورۃ المرسلات: ۳۶، ۳۷۔

(۲) سورۃ الرحمٰن: ۵۲ تا ۵۴۔

باتیں سنیں گے۔ (ان کو) تیرے رب کی طرف سے (ان کے نیک اعمال کا) یہ بدلتے ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔

نبی کریم ﷺ نے نماز کسوف (سورج یا چاند گہن کی نماز) ادا کرتے ہوئے انگور کے گچھے دیکھے، چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کوئی چیز لی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے (یہ کیا ماجرا تھا)? تو آپ نے فرمایا: ”إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَوَّلْتُ مِنْهَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَخْذْتُهُ لَا كُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ كَالِيلَهُ مِنْظَرًا قَطُّ أَفْطَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ“ (۱)۔

میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے انگور کا ایک گچھا لے لیا (ہاتھ میں پکڑا)، اور اگر میں نے اسے لے لیا ہوتا تو تم اس سے رہتی دنیا

(۱) صحیح بخاری، ۱/۱۵، حدیث (۱۹، ۲۳۱، ۲۷۸، ۳۲۰۲، ۴۰۵۲، ۵۱۹۷) و صحیح مسلم، ۲/۲، ۴۲۶، حدیث (۹۰۷)۔

الحالية (۱)۔

بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔ بلند و بالا جنت میں۔ جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا) کہ مزرے سے کھاؤ، پیوا پنے ان اعمال کے بدلتے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کئے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَاقًا، وَكَواعِبَ أَنْرَابًا، وَكَأسًا دَهَاقًا، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِغْوًا وَلَا كَذَابًا، جَزَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَابًا﴾ (۲)۔

یقیناً پر ہیز گاروں کے لئے کامیابی ہے۔ باغات ہیں اور انگور ہیں۔ اور نوجوان کنوواری ہم عمر عورتیں ہیں۔ اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بے ہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹیں۔

(۱) سورۃ الحلق: ۲۳ تا ۲۶۔

(۲) سورۃ الدیباجا: ۳۶ تا ۳۱۔

کہ جنتیوں میں سے ایک شخص نے اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تجھے جو کچھ چاہئے وہ میسر نہیں ہے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں! (ضرور میسر ہے) لیکن مجھے کاشتکاری پسند ہے، چنانچہ اس نے (اجازت پا کر) جلدی کی اور بیچ ڈال دیا تو اس کا پودا پلک جھمکنے میں اُگا، پختہ ہوا، کٹا اور پہاڑوں کی مانند جمع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: لے لے آدم کے بیٹے! تجھے کسی چیز سے آسودگی نہیں ہو سکتی۔ (تو یہ سن کر دیہاتی نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ایسا کسی قریشی یا انصاری، ہی کو پاسکتے ہیں (جو کھیت کرنے کا مطالبہ کرے) کیونکہ وہ کھیت باڑی والے لوگ ہیں، ہم تو کھیت باڑی والے لوگ نہیں ہیں، تو رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے۔

یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جنتیوں کو ان کی منچا ہی ہر چیز ملے گی، کیونکہ ان کے لئے اس میں وہ ساری چیزیں فراہم ہوں گی جس کی انہیں خواہش ہو گی اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی،

تک کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم (بھی) دیکھی، تو میں نے آج کی طرح اس کا بھیا نک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جہنیوں کی اکثریت عورتیں ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک روز ایک دیہاتی (بدوی) شخص کی موجودگی میں حدیث بیان کر رہے تھے: ”إِنْ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهِ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ: أَوْلَاسْتَ فِيمَا شَتَّتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِي أَحَبُّ الزَّرْعَ، فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفُ نَبَاتَهُ وَاسْتَوَأْهُ، وَاسْتَحْصَأْهُ، وَتَكَوَّرَهُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَشْبَعُكَ شَيْءٌ“ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَارَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قَرْشَيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا؛ فَإِنَّهُمْ أَصَحُّ حَابِّ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۳۸۷، حدیث ۵۱۹ (و ۵/۲۷)، حدیث (۲۳۲۸)۔

الْحَمِيمُ، فَشَاربُونَ شَرْبَ الْهَمِيمِ ﴿١﴾۔

پھر تم اے گمراہو جھلانے والو۔ یقیناً تھوڑ کا درخت کھانے والے ہو۔ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔ پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ، فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونَ مِنْهَا الْبَطْوَنُ، فَشَاربُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ، ثُمَّ إِنْ عَلَيْهَا لَشْوَبًا مِنْ حَمِيمٍ﴾ ﴿٢﴾۔

بیشک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوش شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس پر گرم جلتے

(۱) سورۃ الواقعہ: ۵۵ تا ۵۵۔

(۲) سورۃ الصافات: ۶۷ تا ۶۷۔

اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے، آمین ﴿۱﴾۔

۲- جہنم کے درخت اور ان کے سائے:

اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿إِنْ شَجَرَةَ الزَّقْوَنَ، طَعَامُ الْأَثِيمِ، كَالْمَهْلِ يَغْلِي فِي الْبَطْوَنِ، كَفْلِي الْحَمِيمِ﴾ ﴿۲﴾۔

بیشک زقوم (تھوڑ) کا درخت۔ گناہ گار کا کھانا ہے۔ جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ مثل تیز گرم پانی کے۔

نیز اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيَّهَا الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ، لَا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقْوَنَ، فَمَا لَئُونَ مِنْهَا الْبَطْوَنُ، فَشَاربُونَ عَلَيْهِ مِنْ

(۱) و سیکھ: قُتُّ الباری، ۵/۲۷۔

(۲) سورۃ الدخان: ۳۳ تا ۳۶۔

جلتے پانی کی آمیزش ہوگی۔
نیز ارشاد ہے:

﴿وَاصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وَظَلَلَ مِنْ يَحْمُومٍ، لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرْفِينَ، وَكَانُوا يَصْرُونَ عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ﴾ (۱)۔

اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں (ہوں گے)۔ اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ جونہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بیشک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے تھے۔ اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔

فرمان باری ﴿وَظَلَلَ مِنْ يَحْمُومٍ﴾ کا مفہوم دھوئیں کا سایہ ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿أَنْطَلَقُوا إِلَى ظَلِلِ ذِي ثَلَاثَ شَعْبٍ، لَا ظَلِيلٌ وَلَا يَغْنِي

(۱) سورۃ الواقعة: ۳۲ تا ۳۰۔

من اللھب، إنھا ترمي بشرر كالقصر، إنھا جماله
صفر، ويل يومئذ للملکذبين﴾ (۱)۔

چلو تین شاغنوں والے سائے کی طرف۔ جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چکاریاں پھیلکیتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔ گویا وہ زرد اوٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جانے والوں کی درگت ہے۔

(آیت کریمہ میں) مذکور سائے سے مراد بد بودار سیاہ دھوائیں ہے، نہ کہ بذات خود اسی کا سایہ، اور ﴿وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَب﴾ کا معنی یہ ہے کہ وہ شعلوں سے ان کی حفاظت بھی نہ کرے گا (۲)، ﴿فِي سَمُومٍ﴾ سے مراد گرم ہوا اور ﴿حَمِيمٍ﴾ سے مراد گرم پانی ہے (۳)۔

(۱) سورۃ المرسلات: ۳۰ تا ۳۲۔

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲/۳۶۱، ۳۹۵۔

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲/۳۹۵۔

اس میں ہمیشہ رہو گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بَآئِيَةً مِنْ فَضْلَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيرًا، قَوَارِيرٌ مِنْ فَضْلَةٍ قَدْرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ (۱)۔
اور ان پر چاندی کے برتوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو
شیشے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جن کو (ساقی نے)
اندازہ سے ناپ رکھا ہوگا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانَ مَخْلُودُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حُسْبَتِهِمْ
لَؤْلُؤًا مُنْثُرًا﴾ (۲)۔

اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ
ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھئے تو سمجھئے کہ وہ بکھرے

(۱) سورۃ الانسان (دھر): ۱۵، ۱۶۔

(۲) سورۃ الانسان (دھر): ۱۹۔

اکیسوال بحث:

جنتیوں کے خدمتگار اور جہنمیوں کے عذاب کے فرشتے:

۱- جنتیوں کے خدمتگزار اور داروغے:
اللَّهُ أَعْزُزُ وَأَعْلَمُ کا ارشاد ہے:

﴿يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا
تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّلُ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾ (۱)۔

ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے
گلاسوں کا دور چلا�ا جائے گا، ان کے نفس جس چیز کی خواہش کریں
اور جس چیز سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہو گا اور تم

(۱) سورۃ الزخرف: ۱۷۔

المَكْنُونَ، جِزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، إِلَّا قِيلَّاً سَلَامًا ﴿١﴾ (۱)۔

اور جو آگے والے ہیں وہ تو واقعی آگے والے ہی ہیں۔ وہ بالکل نزدیکی حاصل کئے ہوئے ہیں۔ نعمتوں والی جنت میں ہیں۔ ایک گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھتوں پر۔ ایک دوسرے کے سامنے تکلیف لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ (لڑکے ہی) رہیں گے آمد و رفت کریں گے۔ آبخوارے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو۔ جس سے نہ سر میں درد ہونہ عقل میں فتور آئے۔ اور ایسے میوے لئے ہوئے جوان کے پسند کے ہوں۔ اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلمہ ہے ان کے

(۱) سورۃ الواقعة: ۲۶-۳۰۔

ہوئے سچے موتی ہیں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ غَلْمَانٌ لَهُمْ كَآنَهُمْ لَؤْلُؤَ مَكْنُونَ﴾ (۱)۔

ان کے ارد گردان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔

سابقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمَقْرُبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَئِينَ، وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخَرِينَ، عَلَى سرِّ مَوْضُونَةٍ، مُتَكَبِّنٍ عَلَيْهَا مُتَقَابِلُينَ، يَطْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مَخْلُدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، وَكَأْسٌ مِنْ مَعِينٍ، لَا يَصْدِعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزَفُونَ، وَفَاكِهَةٌ مَا يَتَحِيرُونَ، وَلَحْمٌ طَيْرٌ مَا يَشْتَهُونَ، وَحُورٌ عَيْنٌ، كَأَمْثَالِ الْلَّؤْلُؤِ﴾ (۱)۔

(۱) سورۃ الطّور: ۲۳-۲۷۔

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدُوَّهُمْ إِلَّا فَتَنَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (۱)۔

اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دارو غے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لئے مقرر کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جہنم پر متعین فرشتوں کو شدت و سختی اور قوت و طاقت سے متصف فرمایا ہے، ارشاد ہے:

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمِرُونَ﴾ (۲)۔

اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں۔
نیز ارشاد ہے:

(۱) سورۃ المدثر: ۳۰، ۳۱۔

(۲) سورۃ الٹحریم: ۶۔

اعمال کا۔ نہ وہاں بکواس سینیں گے نہ گناہ کی بات۔ صرف سلام، ہی سلام کی آواز ہوگی۔

نیز جنت کے داروغوں کے سلسلہ میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:
﴿وَسِيقَ الظَّالِمِينَ إِلَى الْجَنَّةِ زَمِرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَوْهَا وَفُتُحَتْ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرْزَنَتِهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبِيمٌ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (۱)۔

اور جو لوگ تیرے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوش حال رہو تم اس میں ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ۔

۲۔ جہنمیوں کے عذاب کے فرشتے اور دارو غے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) سورۃ الزمر: ۷۴۔

اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک! تیر ارب ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے!۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَسِيقَ الظِّينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمْ زَمِراً حَتَّى إِذَا جَاءَوْهَا فَتَحَتَ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولُنَا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلٌ وَلَكِنْ حَقَتْ كَلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (۱)۔

کافروں کے گروہ کے گروہ ہم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لئے کھوں دیئے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال

(۱) سورۃ الزمر: ۲۷۔

﴿فَلَيَدْعُ نَادِيَةً سَندَعَ الرَّبَانِيَةَ﴾ (۱)۔

یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ ہم بھی (دوخ کے) پیادوں کو بلا لیں گے۔

زبانیہ: سے مراد عذاب کے فرشتے ہیں، زبانیہ ”زبني“ کی جمع ہے، یہ ”زبن“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ڈھکلینے اور دھکادینے کے ہیں۔ اس کا اصلی معنی پوس اور کارندہ کے ہیں، اور عذاب کے بعض فرشتوں کو ”زبانیہ“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈھکلیں دیں گے (۲)۔
اللَّهُعَزُوجَلُّ كَارِشاد ہے:

﴿وَنَادُوا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُثُرْنَ، لَقَدْ جَئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ (۳)۔

(۱) سورۃ الحلق: ۱۸، ۱۷۔

(۲) دیکھئے: القاموس الحجیط، ص ۱۵۵۲ ادا مجح الموسیط، ۱/۳۸۸ و تفسیر بنوی، ۳/۵۰۸ و تفسیر ابن کثیر، ۲/۵۲۶۔

(۳) سورۃ الزخرف: ۷۸، ۷۷۔

بائیسوال بحث:
مومنوں کی اپنے اہل و عیال اور احباب سے ملاقات،
اور جہنمیوں کی اپنے احباب اور قرابت داروں سے جدائی:

۱- مومنوں کی اپنے اہل عیال اور خاندان والوں سے ملاقات:
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِيتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيتُهُمْ وَمَا أَتَتْهُمْ مِنْ عَمَلٍ هُمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرٍ بِمَا كَسَبُ رَهِيْن﴾ (۱)۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروئی ہے۔

(۱) سورۃ الطّور: ۲۱۔

کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟
جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں! کیوں نہیں، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔
نیز ارشاد ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ إِدْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ، قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رَسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلِّي قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (۱)۔

اور (تمام) جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول مجھے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔

(۱) سورۃ غافر (مومن): ۳۹، ۵۰۔

بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو بندہ کہتا ہے: اے میرے رب! مجھے یہ مرتبہ کیوں کر ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کرنے کی وجہ سے۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا ماتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ“ (۱)۔

جب انسان مرجا تا ہے تو اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا کوئی علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

(۱) صحیح مسلم، ۳/۱۲۵۵، حدیث (۶۳۱)۔

امت کے سب سے بڑے عالم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے (اس آیت کی) تفسیر یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مونمن کی ذریت (نسل) کو جو ایمان کی حالت میں مرے ہیں اسی کے درجہ میں کردے گا، گرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہی کیوں نہ ہوں، (یہ اس لئے کہ) تاکہ ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں انتہائی خوبصورت چہروں میں باہم اکٹھا فرمائے گا (۱)۔

یہ آباء کے عمل کی برکت سے بیٹوں پر اللہ کا فضل و کرم ہے، رہا بیٹوں کی دعاء کی برکت سے آباء پر اللہ کا فضل و کرم تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ لِيَرْفَعَ الدَّرْجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنِّي لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتَغْفَارِ وَلَدَكَ لَكَ“ (۲)۔

(۱) تفسیر ابن کثیر/۲، ۲۲۲/۲۔

(۲) مسن احمد، ۲، ۲۰۹، مام ابن کثیر اپنی تفسیر (۲۲۳/۲) میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کھہ رہے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ (جہنم کے) سامنے لاکھڑے کئے جائیں گے، مارے ذلت کے بھکلے جا رہے ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے ایمان والے صاف کہہ رہے ہوں گے کہ حقیقی زیاد کاروہ ہیں جنھوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا، یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائیٰ عذاب میں ہیں۔

یعنی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ان کی آپس میں کبھی بھی ملاقات نہ ہوگی خواہ ان کے اہل و عیال جنت میں جائیں اور وہ (خود) جہنم میں، یا سب کے سب جہنم رسید ہو جائیں، لیکن نہ ان کی ملاقات ہوگی اور نہ انہیں کوئی خوشی حاصل ہوگی، یہ انتہائی واضح اور صریح خسارہ ہے، کیونکہ وہ جہنم رسید ہوئے، دائیٰ زندگی کی لذت سے محروم اور اپنی ذات کے خسارہ سے دوچار ہوئے نیز ان کے اور ان کے دوست احباب، اہل و عیال اور رشتہ داروں کے درمیان جدائی اور دوری کر دی گئی اور وہ ان سے محروم ہو گئے (۱)۔

(۱) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، ۲/۳۹، ۳۹۱۔

۲۔ جہنیوں کی اپنے اقرباء اور اہل و عیال سے جدای:

اللّٰهُ أَعْزُّ وَجْلَ كَا إِرشادٍ هـ:

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (۱)۔
کہہ دیکھئے! کہ حقیقی زیاد کاروہ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے، یاد رکھو کھلم کھلا خسارہ یہی ہے۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرْدَ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلُّ يَنْظَرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ الزمر: ۱۵۔

(۲) سورۃ الشوریٰ: ۲۲، ۲۵۔

أبـداً“ (۱)۔

اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا: اے جنتیو! تو وہ کہیں گے: اے رب ہم حاضر ہیں، باریابی کے لئے حاضر ہیں، اور تمام بھلائیاں تیرے، ہی ہاتھ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی اور خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے پروردگار! ہم کیوں نہ خوش ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی خلوق میں سے کسی کو عطا نہ کیں، تو اللہ فرمائے گا: کیا میں تمہیں اس سے افضل نعمت نہ عطا کر دوں؟ تو وہ کہیں گے: اے رب! اس سے افضل (نعمت) اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا: میں تمہیں اپنی (دائی) رضا و خوشی عطا کرتا ہوں، اب اس کے بعد تم سے کچھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور ابوسعید رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۳۱۵، حدیث (۲۵۸۹) و صحیح مسلم، ۲/۲۱۷، حدیث (۲۸۲۹)۔

تیسیواں مبحث:

جنتیوں کی نفسیاتی نعمت اور جہنمیوں کا نفسیاتی عذاب:

۱- جنتیوں کی نفسیاتی نعمت:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبِيكَ رَبِّنَا وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدِيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّ! وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحَلَّ عَلَيْكُمْ رَضْوَانِي فَلَا أَسْخُطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ“

جنتیو! (اب) ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے موت نہ آئے گی، اور اے جہنمیو! اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی موت نہ آئے گی۔

اور نبی کریم ﷺ سے مروی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اسی طرح کی بات ہے، اسی میں فرمایا:

”فیزداد اهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ویزداد اهل النار حزناً إلى حزنهم“ (۱)۔

کہ جنتیوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کا رنج و غم مزید بڑھ جائے گا۔

۲۔ جہنمیوں کا نفیاًتی عذاب:
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي﴾

(۱) صحیح مسلم، ۲/۲۸۹، حدیث (۲۸۵۰)۔

”یجاء بالموت يوم القيمة كأنه كبس أملح، فيوقف بين الجنّة والنار، فيقال: يا أهل الجنّة هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنّة خلود لا موت، ويأهـل النار خلود لا موت“ (۱)۔

قیامت کے دن موت کو چتکبرے مینڈھ کی شکل میں لا یا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر آواز لگائی جائے گی: اے جنتیو! کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ اپنا سراٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے: ہاں! یہ موت ہے، اور (اسی طرح) آواز لگائی جائے گی: اے جہنمیو! کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ سراٹھائیں گے اور کہیں گے: ہاں! یہ موت ہے، چنانچہ (اسے ذبح کا) حکم ہو گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے

(۱) صحیح مسلم، ۲/۲۸۸، حدیث (۲۸۴۹)۔

آخر جنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون، قال احسئوا فيها
ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا
آمنا فاغفر لنا وارحم —نا وأنت خير الراحمين،
فاتخذتموهם سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم
منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم
هم الفائزون ﴿١﴾.

کیا میری آئیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہ کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم
انھیں جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے کہ اے رب! ہماری بد بخشی ہم پر
غالب آگئی (واقعی) ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے رب! ہمیں
یہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو پیش ہم ظالم
ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ
سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی
کہتی رہی کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش

(۱) سورۃ المؤمنون: ۱۱۱-۱۱۰.

ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر حكم وما أنت بمصر حي
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم
عذاب أليم ﴿١﴾.

اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو
تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کئے تھے ان کا
خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا
اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگا، بلکہ خود اپنے آپ کو
ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد درس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے،
میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک
ماننے تر ہے، یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿أَلْمَ تَكُنْ آيَاتِي تَتَلَى عَلَيْكُمْ فَكَنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ،
قَالُوا رَبُّنَا غَلِبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا وَكَنَا قَوْمًا ضَالِّينَ، رَبُّنَا

(۱) سورۃ ابراہیم: ۲۲-۲۳.

تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبار مارا اور دو بار، ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری یہیں تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ (عذاب) تمہیں اس لئے ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمِ ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفُ عَنَا يَوْمًاٰ مِّنَ الْعَذَابِ، قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رَسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (۱)۔

(۱) سورۃ غافر (مومن): ۳۹، ۵۰۔

دے اور ہم پر حرم فرماء تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ (لیکن) تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے ہیباں تک کہ (اس مشغلنے) تمہیں میری یاد سے (بھی) غافل کر دیا اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدله دے دیا ہے کہ بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنادُونَ لِمَقْتَلِ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتَلِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، قَالُوا رَبُّنَا أَمْتَنَا اثْنَيْنِ وَأَحَبَبَنَا اثْنَيْنِ فَاعْتَرَفُنَا بِذَنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خروجِ مِنْ سَبِيلٍ، ذَلِكُمْ يَأْنَهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يَشْرُكْ بِهِ تَؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (۱)۔

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا

(۱) سورۃ غافر (مومن): ۱۰ تا ۱۲۔

نیز رشاد باری ہے:

﴿وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا
مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا
قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنُنَا مُؤْذِنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ﴾ (۱)۔

اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب
نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سوم سے جو
تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق
پایا؟ وہ کہیں گے: ہاں! پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان
پکارے گا کہ طالبوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

نیز رشاد ہے:

﴿وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَا اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

(۱) سورۃ الاعراف: ۲۳۔

اور (تمام) جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی
اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی
کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول
معجزہ لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! وہ کہیں گے کہ
پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔

نیز رشاد ہے:

﴿وَنَادُوا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ
مَا كُثُنُونَ، لَقَدْ جَئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكُنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ
كَارِهُونَ﴾ (۱)۔

اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک! تیرا رب ہمارا کام ہی تمام
کر دے، وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم تو تمہارے پاس
حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے
والے تھے!۔

(۱) سورۃ الزخرف: ۷۸، ۷۷۔

چوبیسوال مبحث:

جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب:

۱۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت:

ارشاد باری ہے:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيادة﴾ (۱)۔

جن لوگوں نے یہی کی ہے ان کے لئے نیک انجام ہے اور اس پر
مزید بھی۔

چنانچہ ”حسنی“ سے مراد جنت ہے اور ”زیادۃ“ (مزید) سے مراد
اللہ عز و جل کے رخ کریم کا دیدار ہے (۲)۔

(۱) سورۃ یوں: ۲۶۔

(۲) دیکھئے: حادی الارواح الی بلاد الافراح، لابن القیم، ج ۲۸۸ ص ۵۰، ۵۱۔

حرمهما علی الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا
ولعباً وغرتهم الحيوة الدنيا فالليوم ننساهم كما نسوا
لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ﴿۱﴾۔
اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، کہ ہمارے اوپر تھوڑا
پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے،
جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں
کے لئے بندش کر دی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو
و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا،
سو ہم بھی آج کے دن ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس
دن کو بھول گئے، اور جیسا یہ ہماری آئیوں کا انکار کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”هل تضارون في القمر ليلة القدر؟“ (۱) قالوا: لا
يا رسول الله، قال: فهل تضارون في الشمس ليس
دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم
ترونه كذلك“ (۲).

(۱) ”هل تضارون“ دوسری روایت میں ”تضامون“ کا لفظ ہے، ”تضارون راء پر تشدید اور بغیر تشدید دونوں طرح وارد ہوا ہے، لیکن تاء پر دونوں صورتوں میں پیش ہی ہوگا، راء کو تشدید کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کیا تم (چودہویں رات کے) چاند کو دیکھنے میں بھیڑ یاد کیجئے میں مخالفت یا اور کسی وجہ سے اس کے او جمل رہنے کے سبب ایک دوسرے کو باہم ضرر پہنچاتے ہو جس طرح کہ پہلی شب کے چاند کے دیکھنے میں کرتے ہو؟ اور بغیر تشدید کے پڑھنے کی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ کیا تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ اور ”تضامون“ بھی میم پر تشدید اور بغیر تشدید دونوں طرح مردی ہے، البتہ جو میم کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تاء کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو بغیر تشدید کے پڑھتے ہیں وہ تاء کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، میم کو تشدید کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کیا تم اسے دیکھنے کے لئے باہم ایک دوسرے سے چکنے پر مجبور ہوتے ہو؟ اور بغیر تشدید کے پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کیا تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی مشقت و پریشانی محسوس ہوتی ہے؟ صحیح مسلم بشرح نووی ۳/۲۱۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری ۱/۱۳۹، حدیث (۷۳۷) و صحیح مسلم ۱/۱۲۳، حدیث (۱۸۲)۔

نیز ارشاد ہے:

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُ وَنَفِيَّهَا وَلَدِينَ مَزِيدٌ﴾ (۱)۔

ان کے لئے اس میں وہ سب کچھ ہو گا جس کی وہ خواہش کریں گے اور ہمارے پاس مزید ہے۔
”مزید“ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار ہے (۲)۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (۳)۔

اس دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! کہا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو

(۱) سورۃ ق: ۳۵۔

(۲) دیکھئے: حادی الارواح، لابن القیم، ص ۲۶۱۔

(۳) سورۃ القيامة: ۲۲، ۲۳۔

تم (قیامت کے دن) اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح
اس چاند کو دیکھر ہے ہوتھیں اس کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں
ہو رہی ہے، لہذا اگر تم سے ہو سکے کہ تم طلوع آفتاب سے پہلے
(ایک) نماز اور غروب آفتاب سے پہلے (ایک) نماز سے مغلوب
نہ کئے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔

ابوسعید سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے
رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

”هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت
صحوًا؟“ قلنا: لا، قال: فانكم لا تضارون في رؤية
ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما“ (۱)۔

جب چاند و سورج بدلتی اور گرد و غبار سے صاف و شفاف ہوتے
ہیں تو کیا تمہیں انہیں دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم نے کہا

(۱) صحیح بخاری مختصر الباری، ۱۳/۲۰، حدیث (۲۴۳۹)۔

کیا تمہیں چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں آپس میں (ہجوم و
ازدحام کے سبب) کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا:
نہیں! اے اللہ کے رسول ﷺ! تو آپ نے فرمایا: کیا آفتاب
جو بادل کے اوٹ میں نہ ہو، اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس
کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں! اے اللہ کے رسول، تو آپ نے
فرمایا: تو تم اسی طرح اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔

جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے
ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں شب کے چاند کی طرف دیکھا اور
ارشاد فرمایا:

”إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون
في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل
طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس
فافعلوا“ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری مختصر الباری، ۱۳/۲۹، حدیث (۲۴۳۸)۔

اور جہنم سے نجات نہ عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ (اپنے رخ کریم سے) حجاب (نور) ہٹائے گا! چنانچہ جنتیوں کو اپنے رب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی نعمت عطا نہ ہوئی ہوگی۔
انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

”إِنْ فِي الْجَنَّةِ لِسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلُّ جُمُعَةٍ، فَتَهَبُّ رِيحُ
الشَّمَاءِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فِي زِدَادِهِنَ حَسَنًا
وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حَسَنًا
وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوْهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا
حَسَنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ
بَعْدَنَا حَسَنًا وَجَمَالًا“ (۱).

جنت میں ایک بازار ہوگا، جہاں جنتی ہر جمعہ کو جائیں گے، شمال کی ہوا چلے گی جوان کے چہروں اور کپڑوں سے لگ کر گزرے گی جس سے ان کا حسن و جمال دو بالا ہو جائے گا، پھر وہ اپنے اہل خانہ کی

(۱) صحیح مسلم، ۲۷۸، حدیث (۲۸۳۳)۔

نہیں، تو آپ نے فرمایا: جس طرح تمہیں چاند و سورج کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح اپنے رب تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی پریشانی و مشقت نہ ہوگی۔

صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: تَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدَ كُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلْمَ تَبِيَضُ وَجْهَهُنَّ، أَلْمَ تَدْخُلَنَا الْجَنَّةَ وَتَنْجَنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطَوْا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزوجل“ (۱).

جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم مزید کوئی چیز چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے: کیا تو نے ہمارے پھرے روشن نہ کر دیئے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہ کر دیا

(۱) صحیح مسلم، ۱۶۳، حدیث (۱۸۱)۔

کے اپنے رب کے دیدار کے درمیان صرف اللہ کے رخ کریم پر
کبیریٰ کی چادر حائل ہوگی، دراں حالیہ وہ ”جنت عدن“ (ہیئت
کے باغات) میں ہوں گے۔

۲۔ جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب:

جہنمیوں کے عظیم ترین عذابوں میں سے اللہ عزوجل کا ان سے حباب
میں ہونا (یعنی رخ کریم کے دیدار سے محروم کر دینا) ہے، اللہ عزوجل کا
ارشاد ہے:

﴿كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَحْجُبُوهُنَّ ثُمَّ إِنَّهُمْ
لَـصَالُوا الْجَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كَنْتُمْ بِهِ
تَكْدِيبُونَ﴾ (۱)۔

ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں
گے۔ پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھوکے جائیں گے۔ پھر کہہ دیا
جائے گا کہ کیسی ہے وہ جسے تم جھٹکارہے تھے۔

(۱) سورۃ الطفیل: ۱۵ تا ۱۷۔

طرف لوٹیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہوگا، تو
ان کے اہل و عیال ان سے کہیں گے: اللہ کی قسم! ہمارے پاس سے
جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال دو بالا ہو گیا، تو وہ بھی کہیں گے کہ:
اللہ کی قسم! ہمارے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال بھی
دو بالا ہو گیا۔

عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے والد کے واسطہ
سے نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”جنتان من فضة آنیتھما و ما فيهمما، وجنتان من ذهب
آنیتھما و ما فيهمما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى
ربهم إلا رداء الكبرباء على وجهه في جنة عدن“ (۱)۔

دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور سارے ساز و سامان
چاندی کے ہوں گے اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن
اور سارے ساز و سامان سونے کے ہوں گے، اور جنتیوں اور ان

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۸/۳۲۶، حدیث (۲۲۸۰) و صحیح مسلم، ۱/۲۴۳، حدیث (۱۸۰)۔

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُون﴾ (۱)-

وہاں وہ چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾

و شہیق﴾ (۲)-

لیکن جو بدجنت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چھینیں گے
چلائیں گے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِمْ

فِيمَا تَوَلَّوْا وَلَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذلِكَ نجزي

کل کفور، وہم يصطرخون فیہا ربنا اخر جنا نعمل

صالحاً غیر الذي کنا نعمل اولم نعمركم ما يتذکر

(۱) سورۃ الانبیاء: ۱۰۰۔

(۲) سورۃ حود: ۱۰۷۔

نیز ان کے عظیم ترین عذابوں میں سے کافروں اور منافقوں کا چیم
عذاب میں بتلا رہنا بھی ہے، ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الْمُجْرَمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ

و هُمْ فِيهِ مُبْلِسُون﴾ (۱)-

بیشک گنہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ
عذاب کبھی بھی ان سے ہلاکانہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس
پڑے رہیں گے۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿فَذُوقُوا فَلْنَ نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ (۲)-

اب تم (اپنے کئے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے
رہیں گے۔

نیز ارشاد ہے:

(۱) سورۃ الزخرف: ۷۵، ۷۶۔

(۲) سورۃ الذاریٰ: ۳۰۔

دموعهم لجرت، وإنهم ليكونون الدم“ يعني مكان
الدمع (۱)۔

جہنمی (جہنم میں) اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں
کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چل سکیں گی، اور خون کے آنسو
روئیں گے، یعنی آنسو کی جگہ خون روئیں گے۔

فیه من تذکر وجاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین
من نصیر ﴿۱﴾۔

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی
قضیہ آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے
ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور وہ اس میں
چلائیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم کو نکال لے ہم اپھے کام کریں
گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، (اللہ فرمائے گا) کیا
ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور
تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سومزہ چکھو کہ (ایسے)
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا:

”إن أهل النار ليكونون حتى لو أجريت السفن في

(۱) سورۃ فاطر، ۳۲، ۳۷۔

(۱) اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، ۲۰۵/۲، اور صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے
ان کی موافقت فرمائی ہے، علامہ شیخ البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث الحجۃ (۲۲۵/۲)، حدیث/
۱۶۷۹ میں حسن قرار دیا ہے۔

در میان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شہہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُولُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس سے روگردانی نہ کرو دراں حالیہ تم سن رہے ہو۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۲)۔

اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے بازاً جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا

(۱) سورۃ الانفال: ۲۰۔

(۲) سورۃ الحشر: ۷۔

پچیسوال مبحث:

جنت کی راہ اور جہنم کی راہیں:

۱- جنت کی راہ:

جنت کی راہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحِيطُّمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشِرُونَ﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کہنے کو بجالا و جب کہ رسول تم کو تھاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے

(۱) سورۃ الانفال: ۲۳۔

دینے والا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (۱)۔

کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی اطاعت کرو۔

نیز ارشاد ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دِعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَوْاذاً فَلِيَحْذِرُ الَّذِينَ يَخْالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

(۱) سورۃ النور: ۵۲۔

غذاب أَلِيمٌ ﴿۱﴾۔

تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوانہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، تم میں سے اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو نظر پچا کر پچکے سے سرک جاتے ہیں، سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فِيْوَزًا عَظِيمًا﴾ (۲)۔

اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا وہ بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ

(۱) سورۃ النور: ۶۳۔

(۲) سورۃ الحزادب: ۱۷۔

نے انکار کیا، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔

انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله“ (۱)۔

جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

نیز جنت تک پہنچانے والے عظیم الشان اور جلیل القدر اعمال میں سے نفع بخش یعنی کتاب و سنت کے علم کا حصول اور ان میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا بھی ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”وَمِنْ سَلْكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱۳، ۱۱۱، حدیث (۷۱۳۷)۔

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (۱)۔

اور جو اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہیں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبْيَى“ قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: ”من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى“ (۲)۔

میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس

(۱) سورۃ النساء: ۱۳۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱۳، ۲۲۹، حدیث (۷۲۸۰)۔

چو پاپیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مہمان کی عزت کرنا، مصیبت زدہ مسلمان کی مصیبت دور کرنا، تنگ دست کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، مسلمان کی پردہ پوشی اور اس کی مدد کرنا، اللہ کے لئے اخلاص اور اس پر توکل کرنا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرنا، اللہ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید کرنا، اس کی طرف توبہ و اناہت کرنا، اس کے حکم (فیصلہ) پر صبر اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر، اس سے دعا و سوال اور اس کی طرف رغبت کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کفار و منافقین کے خلاف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جو آپ سے رشتہ کاٹے اس سے رشتہ جوڑنا، جو آپ کو محروم کر دے اسے عطا کرنا، جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دینا، کیونکہ اللہ نے جنت ان متqi بندوں کے لئے تیار فرمائی ہے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿الذين ينفقون في النساء والضراء والكافظمين الغيفط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾ (۱)۔

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۳۲۔

طريقاً الى الجنة، (۱)۔

جو شخص حصول علم کی خاطر کوئی راستہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدل اس کے لئے جنت کی ایک راہ آسان فرمادے گا۔

چنانچہ بندہ جنتیوں کے اعمال انجام دے گا تو اللہ کی توفیق سے جنت میں داخل ہوگا، مختصر اور تفصیلی طور پر ان میں سے چند اعمال حسب ذیل ہیں:
 اللہ عزوجل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اپنی بری تقدیر پر ایمان لانا، فلمہ شہادت "لا اله الا اللہ، محمد رسول اللہ پر عمل کرنا، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرنا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو (کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ) وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، عہد و پیمان اور وعدہ وفا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلح رحی کرنا، ہمسایہ پیغم، مسکین، غلاموں (انسانوں میں سے) اور

(۱) صحیح مسلم، ۲/۲۰۷، صحیح مسلم بشرح نووی، ۱/۲۱۔

جن و انس کو جنت میں داخل کرنے والے سارے اعمال کی تفصیل نا ممکن ہے، البتہ جنتیوں کے سارے اعمال (مجموعی طور پر) اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں داخل ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ جَنَّةً تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱)۔

اور جو اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی فرمابندواری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

۲۔ جہنم کی راہیں:

جہنم کی راہیں بے شمار ہیں جو کہ مجموعی طور پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کے کام ہیں، یہ (اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی) وہ راہ ہے جو

(۱) سورۃ النساء: ۱۳۔

جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔

ساری مخلوق حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی تمام معاملات میں عدل و انصاف کرنا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، جب لوگ نیند کی آغوش میں ہوں تو راتوں کو (نفل) نماز پڑھنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ عز و جل، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کے لئے خیرخواہی کرنا، یہ اور اسی قسم کے دیگر بہت سارے اعمال جنتیوں کے اعمال ہیں، بندہ اللہ کی توفیق سے ان (ذکورہ) اعمال کی بنیاد پر جنتیوں بھری جنت میں داخل ہوتا ہے، جو کہ عظیم کامیابی ہے (۱)۔

(۱) ان (ذکورہ) اعمال میں سے بیشتر اعمال جنتیوں اور جہنمیوں کے اعمال کے سلسلہ میں کئے گئے سوال پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۳۲۳: ۳۲۲/۱۰۔

والدین کی نافرمانی کرنا، رشتے ناطے توڑنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناجی قتل کرنا، پتیم کا مال کھانا، سود کھانا، رشوت دینا اور لینا، لوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھانا، میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگنا، بھولی بھالی، پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹی گواہی دینا، شراب پینا، غرور و تکبر کرنا، چوری کرنا، جھوٹی قسم کھانا، مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، عطیہ و خیرات پر احسان جتنا، جھوٹی قسموں کے ذریعہ سامان فروخت کرنا، کاہن اور نجومی (کی باتوں) کی تصدیق کرنا، ذی روح اشیاء کی تصویر کشی (فوٹوگرافی) کرنا، قبروں کو مسجدیں (سجدہ گاہ) بنانا، مردہ پر نوحہ کرنا، ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، مردوں کا راشم یا سونا پہنانا، ہمسایہ کو اذیت پہنچانا، وعدہ خلافی کرنا۔ یہ اور اسی قسم کے دیگر بہت سارے اعمال ہیں جن کے سبب جنات و انسان جہنم رسید ہوتے ہیں (۱)۔ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ

(۱) دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ /۱۰، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، الکبار للذہبی و تنبیہ الغافلین و تحذیر السالکین من افعال المخالفین، لاحمد بن ابراہیم النخاس۔

جنہینیوں کے سارے اعمال کی جامع ہے، اور اس کے سبب بندہ صریح خسارہ سے دوچار ہو جاتا ہے، چنانچہ جہنہمیوں کے سارے اعمال سے دور رہنا ضروری ہے، مختصر اور تفصیلی طور پر ان میں سے چند اعمال حسب ذیل ہیں:

اللہ کے ساتھ شرک کرنا، رسولوں کی تکذیب کرنا، کفر، حسد، جھوٹ، بے حیائی، خیانت، ظلم، خفیہ و علانیہ فواحش، دھوکہ اور قطع تعلق کا ارتکاب کرنا، جہاد سے بزدلی کا ثبوت دینا، بخل، (حد درجہ کی) کنجوی کرنا، ظاہر و باطن کا مختلف ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے مکر سے مامون ہونا، مصیبتوں پر واویلا (آہ و بکا) کرنا، نعمتوں پر فخر کرنا اور اترانا، اللہ کے فرائض کا ترک، اسکے حدود سے تجاوز اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنا، خالق کے بجائے مخلوق سے ڈرنا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنا، خالق کے بجائے مخلوق پر اعتماد و بھروسہ کرنا، ریا و نمود کی خاطر عمل کرنا، کتاب و سنت کی مخالفت کرنا، خالق (اللہ) کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا، باطل پر تعصیب کرنا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، حق کا انکار کرنا، جس علم یا گواہی کا ظاہر کرنا ضروری ہے اسے چھپانا، جادو گری،

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں
چلا گیا۔

میں اللہ عزوجل سے اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کے وسیلہ سے
سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں راہ راست کی رہنمائی فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ سے
کھلے خسارہ والوں کے گھر جہنم اور اس سے قریب کرنے والے ہر قول و عمل
سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، نیز اللہ سے عظیم کامیابی والوں کی منزل جنت
اور اس سے قریب کرنے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتے ہیں۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وأصحابہ ومن
تابعہ بیاحسان إلى يوم الدين.

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ بن سالمی
۱۲۲۵ھ / ۱۲ محرم
اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ، مملکت سعودی عرب۔
موباکل: +91-9773026335

چاہتے ہیں۔ جہنم میں داخل کرنے والے تمام اعمال کی تفصیل ناممکن ہے،
البته جہنمیوں کے سارے اعمال (مجموعی طور پر) اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں داخل ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدَّوْدَهِ يَدْخُلُهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلِهِ عَذَابٌ مَهِينٌ﴾ (۱)۔

اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور
اس کی مقررہ حدود سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسیوں ہی کے لئے رسوا کن عذاب
ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًاً
مُبِينًا﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ النسا: ۱۳۔

(۲) سورۃ الاحزاب: ۳۶۔

فہرست مضمایں

صفحہ نمبر	موضوعات و مضمایں
۳	مقدمہ از مترجم
۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم
۷	مقدمہ مؤلف
۱۳	☆ پہلا بحث: ”الفوز العظیم“ اور ”الخسر ان لمین“ کا مفہوم
۱۳	۱- الفوز العظیم (برٹی کامیابی) کا مفہوم
۲۳	۲- الخسر ان لمین (صریح خسارہ) کا مفہوم
۲۹	☆ دوسرا بحث: جنت کی بشارت اور جہنم کی وارنگ
۲۹	۱- جنت کی ترغیب
۳۲	۲- جہنم کی وارنگ
۳۳	☆ تیسرا بحث: جنت و جہنم کے نام

۸۸	۱- جنت کا حجاب (اسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے)	۶۳	۱- جنت کے نام
۹۱	۲- جہنم کا حجاب (اسے من پسند چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے)	۵۰	۲- جہنم کے نام
۹۲	☆ نواز مبحث: جنت و جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے	۵۵	☆ چوٹھا مبحث: جنت و جہنم کی جگہ (جائے وقوع)
۹۳	۱- سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے	۵۵	۱- جنت کی جگہ (جائے وقوع)
۱۰۰	۲- سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے	۵۷	۲- جہنم کی جگہ (جائے وقوع)
۱۰۳	☆ دسوال مبحث: جنتیوں اور جہنیوں کی سلامی	۶۲	☆ پانچواں مبحث: موجودہ وقت میں جنت و جہنم کا وجود
۱۰۴	۱- جنتیوں کی سلامی	۶۲	۱- جنت کا وجود
۱۰۶	۲- جہنیوں کی سلامی	۶۲	۲- جہنم کا وجود
۱۱۰	☆ گیارہواں مبحث: جنتیوں اور جہنیوں کی اکثریت	۷۱	☆ چھٹا مبحث: جنت و جہنم کی طرف روانگی
۱۱۰	۱- جنتیوں کی اکثریت	۷۱	۱- جنت کی طرف روانگی
۱۱۵	۲- جہنیوں کی اکثریت	۷۳	۲- جہنم کی طرف روانگی
۱۱۸	☆ بارہواں مبحث: جنت کے درجات اور جہنم کی کھائیاں	۸۰	☆ ساتواں مبحث: جنت و جہنم کے دروازے
۱۱۸	۱- جنت کے مراتب و درجات	۸۰	۱- جنت کے دروازے
۱۲۷	۲- جہنم کی تہییں (کھائیاں)	۸۳	۲- جہنم کے دروازے
۱۳۱	☆ تیرہواں مبحث: سب سے معمولی درجہ کا ختنی اور سب سے ہلکے عذاب میں بتلا جنہیں	۸۸	☆ آٹھواں مبحث: جنت و جہنم کا حجاب

۱۸۳	۱۳۱	۱- سب سے معمولی درجہ کا جنتی ۲- سب سے ہلکے عذاب میں بنتلا جہنمی
۱۸۸	۱۳۷	چودہواں مبحث: جنتیوں اور جہنمیوں کا لباس
۲۰۱	۱۴۲	۱- جنتیوں کا لباس ۲- جہنمیوں کا لباس
۲۰۱	۱۴۲	۱- جنتیوں کے جسموں کی قامت، ان کی عمریں اور... ۲- جہنمیوں کے جسموں کی قامت، ان کے دانت اور...
۲۰۳	۱۴۸	پندرہواں مبحث: جنتیوں اور جہنمیوں کے بستر
۲۰۸	۱۵۲	۱- جنتیوں کے بستر ۲- جہنمیوں کے بستر
۲۰۸	۱۵۲	۱- جنت کے درخت اور ان کے سامنے ۲- جہنم کے درخت اور ان کے سامنے
۲۱۶	۱۵۳	۱- سولہواں مبحث: جنتیوں اور جہنمیوں کا کھانا ۲- جہنمیوں کا کھانا
۲۲۰	۱۵۷	۱- جنتیوں کا کھانا ۲- جہنمیوں کا کھانا
۲۲۰	۱۵۷	۱- جنتیوں خدمت گزار اور ان کے برتن ۲- جہنمیوں کے عذاب کے فرشتے اور داروغے
۲۲۲	۱۶۱	۱- سترہواں مبحث: جنتیوں اور جہنمیوں کا پینا ۲- جہنمیوں کا پینا
۲۲۹	۱۶۶	۱- جنتیوں کا پینا اور ان کے برتن ۲- جہنمیوں کا پینا
۲۲۹	۱۶۶	۱- جنتیوں کی اپنے اہل و عیال کی اعزاء و اقارب اور اہل و عیال سے ملاقات ۲- جہنمیوں کی اپنے اعزاء و اقارب اور اہل و عیال سے جدائی
۲۳۲	۱۷۶	۱- آٹھارہواں مبحث: جنتیوں کی نفسیاتی نعمت اور جہنمیوں کا نفسیاتی ...
۲۳۳	۱۸۳	۲- آٹھارہواں مبحث: جنتیوں کے محل اور جہنمیوں کی رہائش گاہیں

۱- جنتیوں کی نفسیاتی نعمت	۲۳۳
۲- جہنمیوں کا نفسیاتی عذاب	۲۳۷
☆ چوپیسوں مبحث: جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب	۲۲۵
۱- جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت	۲۲۵
۲- جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب	۲۵۳
☆ پچیسوں مبحث: جنت کی راہ اور جہنم کی راہیں	۲۵۸
۱- جنت کی راہ	۲۵۸
۲- جہنم کی راہیں	۲۶۷
فہرست مضمایں	۲۷۳



الفوز العظيم والخسنان المبين

في ضوء الكتاب والسنة



تأليف الفقيه إلى الله تعالى
سعید بن علی بن وفے البوصافی